

مولانا محمد شہاب الدین ندوی

سورج کی موت اور قیامت

قرآن، حدیث اور سائنس کی نظر میں

مطبوعات فرقانیہ اکیڈمی ٹرسٹ



مولانا محمد شہاب الدین ندوی

عمر خان خطیب


سورج کی موت اور قیامت

قرآن، حدیث اور سائنس کی نظر میں

مطبوعات فرزانہ اکیڈمی قرصت

سلسلہ مطبوعات فرقانیا اکیڈمی ٹرسٹ ۷۷
جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ

نام کتاب سورج کی موت اور قیامت
نام مصنف مولانا محمد شہاب الدین ندوی
کمپیوٹر کمپوزنگ جمیل الرحمن ندوی، فرقانیا گرافکس، بنگلور
بار اول ۱۳۲۱ھ / ۲۰۰۱ء
ناشر فرقانیا اکیڈمی ٹرسٹ، بنگلور
مطبوعہ ایلیکٹ پرنٹنگ ورکس، بنگلور
قیمت



فرقانیا اکیڈمی ٹرسٹ

FURQANIA ACADEMY TRUST

82, 10th Main, 1st Cross, BTM 1st Stage, Bangalore-560029 (India)

Tel: 6682101, 6684161; Fax: 6682101;

E-mail: furqania@vsnl.com; <http://www.furqania.com>

باہتمام
جمیل الرحمن ندوی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

قیامت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے، جس کا استحضار انسان کو اپنے کردار و کیر کیز کے درست کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم میں اس کے اثبات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس کے ثبوت میں عقلی و سائنسی دلائل پیش کئے گئے ہیں، تاکہ قائل انسان آنے والی زندگی پر یقین کر سکے۔ چنانچہ انہی دلائل میں سے ایک ہمارے سورج کی موت بھی ہے۔ سائنسی نقطہ نظر سے سورج ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہو کر رہے گا، جیسا کہ خود سائنس دانوں نے بیسویں صدی میں اس حقیقت پر سے پردہ اٹھایا ہے۔ مگر اسلام نے اب سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے اس ابدی حقیقت کی پیش گوئی کر دی تھی، جس کی تصدیق موجودہ دور میں ہو رہی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ پوری کائنات ایک منصوبہ بند عمل کا نتیجہ ہے اور اس کے سارے واقعات خدائی منصوبے کے عین مطابق ظہور پذیر ہو رہے ہیں۔

یہ کتاب دو مقالات کا مجموعہ ہے جو الگ الگ اوقات میں لکھے گئے ہیں۔ مگر ان دونوں میں کافی مناسبت ہے۔ اس لئے انہیں یکجا طور پر شائع کیا جا رہا ہے۔

محمد شہاب الدین ندوی

۲۰۰۶/۸/۷

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۳	پیش لفظ	۱
۴	فہرست مضامین	۲
	پہلا باب	
	سورج کی موت اور قیامت	
۷	اسلام کی ایک پیش گوئی	۳
۸	نظام کائنات کی گواہی	۴
۸	رونگئے کھڑا کر دینے والی داستان	۵
۹	چاند اور سورج باضابطہ و باوقار	۶
۱۱	ذوق قیامت سائنس کی نظر میں	۷
۱۳	ایک عظیم قرآنی انکشاف	۸
۱۵	قرآن، حدیث اور سائنس کی مطابقت	۹
۱۷	حدیث کی جانچ کا ایک نیا اصول	۱۰
۱۹	قدیم مفسرین کے انکشافات	۱۱
۲۱	راویان حدیث کی صداقت	۱۲
۲۳	سورج اور چاند کا خاتمہ	۱۳

سورج کی موت اور قیامت

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۴	اسلام ایک فطری اور سائنٹفک مذہب	۱۴
۲۶	حرکیات حرارت کا دوسرا قانون	۱۵
۲۷	ستارے امن کے پیامبر	۱۶
۲۸	کسوف و خسوف اور حکمت نبوی	۱۷
۳۱	کائنات کی منصوبہ بندی	۱۸
۳۳	میزان کیا ہے؟	۱۹
۳۶	طبیعی و شرعی میزان	۲۰
۳۷	میزان صغریٰ و میزان کبریٰ	۲۱
۳۸	قرآن اور کائنات کی مطابقت	۲۲
۳۹	اصول دین کا اثبات	۲۳
۳۹	قرآن اور کائنات کے اسرار مرہبہ	۲۴
۴۲	حدیث بھی نشان رسالت	۲۵
۴۵	مراجع و حواشی	۲۶
دوسرا باب		
آسمان کیا ہے؟		
۵۰	کائنات کا آغاز و انجام	۲۷
۵۲	آسمان اور جدید سائنس	۲۸
۵۳	کائنات کا ڈراپ سین	۲۹
۵۵	آسمان کے دروازے	۳۰

سورج کی موت اور قیامت

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۵۶	بروج یا کائناتی جزائر	۳۱
۵۸	آسمانی دنیا کی محیر العقول وسعت	۳۲
۶۱	عرش کے مقابلے میں سات آسمانوں کی حیثیت	۳۳
۶۲	زمین اور آسمان اللہ کی مشی میں	۳۳
۶۵	ایک اشکال اور اس کا جواب	۳۵
۶۶	نو آسمانوں کا غلط نظریہ	۳۶
۶۸	فلسفہ یونان کا ابطال	۳۷
۷۰	آسمان اول کی بعض تفصیلات	۳۸
۷۲	ایک وضاحت	۳۹
۷۲	اسلامی دور میں قانون تجاذب کا مفہوم	۴۰
۷۵	دور صحابہ میں کہکشاں کا تصور	۴۱
۷۶	تخریب عالم کی ابتدا آسمان سے کیوں؟	۴۲
۷۸	حرف آخر	۴۳
۷۹	مراجع و حواشی	۴۴

پہلا باب

سورج کی موت اور قیامت

قرآن، حدیث اور سائنس کی نظر میں

اسلامی عقائد میں توحید اور رسالت کے بعد یوم آخرت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ کیونکہ انہیں عقائد کے اثبات سے انسانی کردار و کیر کمر کی درستی عمل میں آتی ہے۔ یوم آخرت یا قیامت کا عقیدہ ایک ایسا کوڑا یا ہنجر ہے جو انسان کو قابو میں رکھ سکتا ہے، جس کے مطابق ہر انسان کو اس کے اعمال کی جزا و سزا ملے گی۔

اسلام کی ایک پیش گوئی

اسلامی عقائد ادعائی یا دقیانوسیت کی نشانی نہیں ہیں، بلکہ وہ حد درجہ علمی و عقلی ہیں، جن کی صداقت پر نظام کائنات گواہ ہے۔ چنانچہ اسلامی عقائد اور تعلیمات کی تصدیق و تائید جدید ترین اکتشافات کے ذریعہ مسلسل ہو رہی ہے، جو اس بات کا واضح اور ناقابل تردید علمی و سائنٹفک ثبوت ہے کہ یہ پوری کائنات اسی عظیم و خمیر اور لازوال ہستی کی پیدا کردہ ہے جس نے نبی آخر زماں حضرت محمد ﷺ کے ذریعہ ایک بے نظیر اور معجزانہ کتاب بھیجی ہے، جو اس کائنات کے ایسے ”بھیدوں“ پر مشتمل ہے جن کو چودہ سو سال پہلے کوئی بھی انسان نہیں جانتا تھا۔ اور ان بھیدوں میں سے ایک بھید سورج کی ”موت“ اور وقوع قیامت کا نظارہ ہے۔ چنانچہ نہ صرف قرآن عظیم میں سورج اور ستاروں کی ”طبعی“ موت کی پیش گوئی واضح انداز میں مذکور ہے، بلکہ حدیث نبوی میں اس کی شرح و تفصیل بھی وارد ہوئی ہے۔ نیز

سورج کی موت اور قیامت

صدیوں پہلے مفسرین اور راویان حدیث نے بھی اس قرآنی پیش گوئی کا صحیح صحیح مفہوم بیان کر کے اس نظریہ و عقیدے کو مزید مستحکم کر دیا ہے۔

نظام کائنات کی گواہی

چنانچہ اب چودہ سو سال بعد جدید سائنس اور اس کے اکتشافات نے ہو بہو وہی مفہوم بیان کر کے اسلامی عقائد و تعلیمات کی صحت و صداقت پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ اور یہ بڑی ہی ایمان افروز کہانی ہے، جس کے ملاحظے سے اسلام کے مذکورہ بالا تینوں بنیادی عقائد علم و عقل کی روشنی میں صحیح ثابت ہوتے ہیں اور الحاد و مادہ پرستی کی تردید ہوتی ہے۔ چنانچہ اس حقیقت کے ملاحظے سے ثابت ہوتا ہے کہ:

۱- یہ کائنات کوئی اہل ٹپ یا اتفاقی حادثہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک خالق اور رب بھی ہے جو

اس کائنات کے تمام اسرار و رستے سے واقف ہے، اور یہی خدائے ذوالجلال ہے۔

۲- خالق کائنات نے چونکہ اپنی تخلیقات کے اندرونی رازوں کی نقاب کشائی کرتے ہوئے

انہیں اپنی کتاب حکمت میں چودہ سو سال پہلے ہی محفوظ کر دیا ہے، جن کی تصدیق و تائید اکتشافات جدیدہ کے ذریعہ ہو رہی ہے، لہذا ثابت ہوتا ہے کہ یہ کتاب (قرآن عظیم) برحق ہے اور وہ اسی ہستی کی جانب سے نازل شدہ ہے جس نے یہ رنگارنگ کائنات بنائی ہے۔ ورنہ اس قدر لازوال سچائیاں ظہور میں نہ آتیں۔

۳- قرآن عظیم جس ہستی پر نازل ہوا وہ خدا کے سچے رسول تھے، جنہوں نے کلام الہی کو بے

کم و کاست انسانوں کے سامنے پیش کیا۔ اور انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی، بلکہ جو کچھ بھی کہا وہ وحی الہی کی بدولت کہا۔

رونگٹے کھڑا کر دینے والی داستان

اس اعتبار سے توحید، رسالت اور یوم آخرت کے اثبات کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا کلام

الہی ہونا بھی سائنٹفک نقطہ نظر سے ثابت ہوتا ہے۔ نیز اس بحث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ عالم رنگ

و یو ایک زبردست اسکیم اور پوری منصوبہ بندی کے تحت وجود میں آئی ہے اور ایک مکمل پلان کے تحت

سورج کی موت اور قیامت

جاری و ساری ہے۔ چنانچہ اس موقع پر سورج کی ”طبیعی موت“ پر (جو وقوع قیامت کی ایک واضح علامت ہے) جدید ترین سائنسی تحقیقات کا ایک جائزہ پیش کیا جائے گا اور پھر قرآن و حدیث کے ابدی حقائق اور مفسرین و محدثین اور راویاں حدیث کی تشریحات پیش کی جائیں گی، جن سے یہ حقیقت دو اور دو چار کی طرح سامنے آئے گی کہ ان سب کا تال اور سر ایک ہی ہے۔ نیز یہ کہ قرآن اور حدیث میں سورج اور چاند ستاروں کی موت اور اختتام کائنات کے بارے میں ایسے زبردست انکشافات موجود ہیں جو روٹنے کھڑا کر دینے والے ہیں۔

چاند اور سورج باضابطہ و بارقار

یہ کائنات بخت و اتفاق کے تحت وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کا ایک خالق و ناظم ہے جس نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ اسے وجود بخشا ہے۔ چاند، سورج اور ستارے اس کائنات میں باضابطہ طور پر رواں دواں ہیں۔ اس سلسلے میں ایک ساکنٹفک حقیقت یہ ہے کہ جس طرح حیوانات و نباتات پیدا ہوتے ہیں، پھر جوان ہوتے ہیں، اور پھر بوڑھے ہو کر مر جاتے ہیں، بالکل اسی طرح چاند ستارے بھی پیدا ہوتے پھر جوان ہوتے اور پھر بوڑھے ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ اسی لئے قرآن حکیم میں چاند، سورج اور ستاروں کی ماہیت اور ان کے ضوابط میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے:

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. (نحل: ۱۲)

”اور اس نے تمہارے لئے دن رات اور چاند سورج کو رام کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ ان مظاہر میں عقل والوں کے لئے کافی نشانیاں موجود ہیں۔“

اس سلسلے میں ایک دوسری حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ چاند اور سورج ایک مقررہ مدت یا ایک حسابی ضابطے کے تحت چکر کاٹ رہے ہیں، جیسا کہ فرمان خداوندی ہے:

سورج کی موت اور قیامت

يُؤَلِّجُ النَّيْلَ فِي السَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، كَلَّا
يَجْعَلِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ. (فاطر: ۱۳)

”وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں۔ اور اسی نے سورج اور چاند کو تابو میں کر رکھا ہے۔ (چنانچہ) ہر ایک ایک مقررہ مدت کے مطابق دوڑ رہا ہے۔ یہی ہے تمہارا رب اور اسی کے لئے ہے (اس کائنات کی) پوری بادشاہی۔“

اس موقع پر ”اجل مسمیٰ“ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ لفظ ”اجل“ کے معنی مقررہ مدت کے ہیں (المدة المخرّوة للشئ)۔ اور ”مسمیٰ“ کے معنی بھی مقرر کردہ یا محدود کئے آتے ہیں۔ (مسمیٰ الاجل۔ عینہ وحدہ) ۱

اس لحاظ سے اس میں مزید تاکید پیدا ہوگئی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مدت جو بالکل مقررہ ہو۔ اور اس مقررہ مدت کے دو مفہوم یا دو مصداق ہو سکتے ہیں: (۱) چاند اور سورج دونوں ایک مقررہ حساب سے چل رہے ہیں۔ (۲) یہ دونوں ایک مقررہ مدت تک چلتے رہیں گے۔ پہلی صورت میں لفظ ”بجری“ حال کے معنی پر دلالت کرنے والا ہوگا، جیسا کہ اوپر مذکور سورۃ فاطر کی آیت سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اور دوسری صورت میں وہ مستقبل کے معنی پر دلالت کرنے والا ہوگا، جیسا کہ حسب ذیل آیت سے ظاہر ہوگا۔

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، كَلَّا يَجْعَلِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ
الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُؤْقِنُونَ. (رعد: ۲)

”اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے۔ (چنانچہ ان دونوں میں سے) ہر ایک مقررہ وقت تک چل رہے گا۔ وہ معاملے کی تدبیر کر رہا ہے اور اپنی نشانیوں کو کھول کر بیان کر رہا ہے، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر سکو۔“

اس موقع پر ”وقت مقررہ“ سے مراد ”یوم موعود“ ہے۔ کیونکہ اس کے بعد جو تین حقیقتیں بیان

سورج کی موت اور قیامت

کی گئی ہیں وہ وقوع قیامت پر دلالت کر رہی ہیں: (۱) وہ پورے معاملے (نظام کائنات) کی تدبیر کر رہا ہے۔ (۲) وہ اپنی نشانیوں کو (جو وقوع قیامت سے متعلق ہیں) کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ (۳) تاکہ تم اپنے آقا سے ملنے کا یقین کر سکو۔ یعنی وقوع قیامت کی سچائی کا نظارہ پورے یقین کے ساتھ کر سکو۔ چنانچہ اس موقع پر وقوع قیامت سے متعلق جن نشانیوں کے ظہور کی پیش گوئی کی گئی ہے وہ جدید ترین سائنسی تحقیقات و اکتشافات کے باعث کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ لہذا اب اگلی سطور میں ان پر بحث کی جائے گی۔

وقوع قیامت سائنس کی نظر میں

سائنسی نقطہ نظر سے ہمارے سورج جیسے ستارے بھی جیتے اور مرتے رہتے ہیں۔ ہماری اس کائنات میں اربوں کہکشائیں (ستاروں کی جھرمٹ) موجود ہیں۔ ہماری کہکشاں میں ہمارے سورج جیسے تقریباً ایک کھرب ستارے موجود ہیں۔ کہکشاؤں اور ستاروں کی یہ تعداد محیر العقول ضرور ہے مگر یہ کوئی افسانہ نہیں ہے۔ ماہرین فلکیات جدید ترین دوربینوں کے ذریعہ لاکھوں نوری سال کے فاصلے پر واقع کہکشاؤں کا نظارہ کر کے ان کی واضح تصویریں اتار چکے ہیں۔ سورج اور دیگر ستارے ہائیڈروجن گیس کے بنے ہوئے ہیں جو ایک جلنے والی گیس ہے۔ اور سورج کے لٹن میں ڈیڑھ سے دو کروڑ ڈگری درجہ حرارت پائی جاتی ہے۔ اور اس زبردست تپش کی بدولت اس کی ہائیڈروجن گیس مسلسل جلتے ہوئے ایک دوسرے عنصر ہیلیم کے میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے، جو جلنے کے قابل نہیں ہے۔ بلکہ اس کی حیثیت راکھ کی طرح ہے، جو کسی چیز کے جلنے کے بعد باقی رہ جاتی ہے۔ سورج درحقیقت ایک چراغ کی طرح ہے، جس کا "اینڈھن" ہائیڈروجن گیس ہے۔ سورج کی روشنی اور اس کی حرارت اسی کے جلنے کی بدولت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب یہ اینڈھن ختم ہو جائے گا تو چراغ بھی بجھ جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا سارا اینڈھن ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہو کے رہے گا، تب وہ بالکل سرد اور "بے جان" ہو کر ایک طرف

سورج کی موت اور قیامت

لڑھک جائے گا اور یہ اس کی "موت" ہوگی۔ سائنس کی اصطلاح میں ایسے ٹھنڈے یا "مردہ" ستارے کو "سفید بونا" یا "وہائیٹ ڈراف" کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے سورج درحقیقت ایک بہت بڑا "تھرمل پلانٹ" ہے، جو انسان کی خدمت بھی کر رہا ہے اور اسے ایک آنے والے دن کی خبر بھی دے رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روسی سائنس داں جارج گیمنو نے (جس نے بعد میں امریکہ کی شہریت اختیار کر لی تھی) ایک کتاب لکھی ہے، جس کا نام ہی "سورج کی پیدائش اور موت" ہے۔ چنانچہ اس نے سورج کی "طبیعیات" پر تفصیلی بحث کرتے ہوئے صاف لکھا ہے کہ سورج کے اندر بہت بھاری مقدار میں ہائیڈروجن گیس موجود ہے، جو مسلسل ہیلیم میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ بالآخر اس کی پوری ہائیڈروجن جل جائے گی، تب اس کا تھرمنوکلیرری ایکشن بند ہو جائے گا۔ اور وہ ایک بے حد ٹھنڈے جسم میں تبدیل ہو جائے گا۔

The sun has a larger percentage of hydrogen gas in its atmosphere which will be continually converted into helium. Eventually all hydrogen is going to be burnt up when the thermonuclear reaction will be ceased. It will turn into an immensely cold body. ۵

اور اب یہ دنیائے سائنس میں ایک "حقیقت" بن چکی ہے۔ کیونکہ یہ چیز طبعی اور "حسابی" نقطہ نظر سے ایک حتمی صداقت نظر آ رہی ہے۔ اور اس حقیقت کو ہر سائنس داں صحیح تصور کرنے پر خود کو مجبور پارہا ہے۔ چنانچہ دنیا کے سب سے بڑے "دائرة المعارف" انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں اس حقیقت کا اعتراف اس طرح موجود ہے:

"سورج کے مستقبل کا ارتقا بھی اسی طرح متوقع ہے جس طرح دوسرے عام ستاروں میں ہوتا ہے۔ آخر کار پوری ہائیڈروجن جل کر ختم ہو جائے گی اور ہیلیم اور دیگر روزنی جوہروں کا نیوکلیائی تعامل شروع ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں سورج کی کیمیائی ساخت بدل جائے گی اور اس کی روشنی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس طرح وہ ایک "سرخ دیو" بن جائے گا۔ ارتقائی اعداد و شمار سے اندازہ ہوتا ہے کہ

سورج کی موت اور قیامت

سورج کو اس حالت تک پہنچنے کے لئے ایک ارب سال درکار ہوں گے۔ آخر کار جب نیوکلیائی توانائی کے سارے ذرائع ختم ہو جائیں گے تو سورج اپنی آخری ارتقائی منزل تک پہنچ کر ایک ”سفید بونا“ بن جائے گا، یعنی ایک چھوٹے دائرے والا ستارہ۔

The future evolution of the sun is expected to be similar to that of other normal stars. Eventually all hydrogen will be burned up and nuclear reactions involving helium and heavier atoms will take over. This will change the chemical composition of the sun; as a result, the sun will increase in luminosity and thus turn into a red giant. Computations on evolutionary models predict that in a few times 10^9 years the sun will reach the red giant stage. Finally, when all nuclear energy sources are used up, the sun will reach its last evolutionary stage; that is, it will become a white dwarf, a star of small radius.

اس موقع پر یہ جو کہا گیا ہے کہ سورج کی ”حیات مستعار“ کے ابھی ایک ارب سال باقی ہیں، تو یہ بات سورج کے جسم میں موجود ہائیڈروجن کی مقدار کے پیش نظر ہے کہ وہ جس رفتار سے اپنا ”ایندھن“ (ہائیڈروجن) کھوتا جا رہا ہے اس کے پیش نظر اس کے ایندھن کو ختم ہونے میں ابھی اتنا عرصہ لگے گا۔ مگر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سورج ایک ارب سال سے پہلے ختم نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خود سائنس دانوں ہی کی تحقیقات کے مطابق ہمارے سورج جیسے بعض ستارے پُر اسرار قسم کے دھماکوں سے پھٹتے رہتے ہیں۔ اس طرح پھٹنے والے ستاروں کو ”حادثہ ستارے“ (نووا) کہا جاتا ہے۔ اور ہماری کہکشاں میں ہر سال اس قسم کے تقریباً تیس ستارے پھٹتے رہتے ہیں:

About thirty nova outbursts are thought to occur each year in the Galaxy.

اور یہ وہ تماشائے رُبو بہت ہے جس کا آج سائنس دان اپنی طاقتور دوربینوں کے ذریعہ ”مشاہدہ“ کر رہے ہیں۔ اور اس اعتبار سے ہمارا اپنا سورج بھی کسی دن ایک حادثہ ستارہ (نووا) بن

سکتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں خود جارج گیمنے اس کا امکان ظاہر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ ہمارا سورج بھی کسی دن اچانک ایک حادثہ ستارے کا روپ دھار کر ایک لطیف گیس میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور یہ سب کچھ اتنی سرعت کے ساتھ ہوگا کہ کسی کو بھی محسوس نہ ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی بعید ترین نظام شمسی کے کسی سیارے پر بیٹھے ہوئے کچھ ماہرین فلکیات اپنی دور بینوں کے ذریعہ ہمارے سورج پر نگاہ ڈالیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ایک حادثہ ستارہ نمودار ہوا ہے۔

If, one fatal day, our sun should choose to become nova, the earth (and all the other planets as well) would instantly be turned into a thin gas; and it all would take place so fast that nobody would ever have time to realize what happened. Only the astronomers, if there are any, on some distant planetary system of another star. ۱۳

ایک عظیم قرآنی انکشاف

سورج کی پیدائش اور موت کی یہ پوری داستان جس کو دنیائے سائنس نے بیسویں صدی میں دریافت کیا ہے، اس کا انکشاف قرآن عظیم کے ذریعہ روز اول ہی میں ایک علمی پیش گوئی کے طور پر اس طرح کر دیا گیا تھا:

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ . وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ : (ایک وقت آئے گا) جب سورج بے نور ہو جائے گا اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے۔ (تکویر: ۱-۲)

اس موقع پر پہلی آیت میں سورج کی ”بے نوری“ یا اس کی موت کی خبر دی گئی ہے۔ اور دوسری آیت میں کائنات کے اختتام کی پیش گوئی کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں قیامت واقع ہوگی۔ چنانچہ پہلی آیت کی حقیقت اوپر مذکور سائنسی انکشافات کے تحت بخوبی ظاہر ہو چکی ہے۔ سورج کی یہ موت ظاہر ہے کہ ہمارے پورے ”نظام شمسی“ کی موت ہوگی۔ کیونکہ جب سورج ہی نہیں رہے گا جو روشنی، حرارت اور زندگی کا منبع ہے، تو اس کے تابع سیاروں (جیسے عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری اور

سورج کی موت اور قیامت

زحل وغیرہ) کا وجود بھی باقی نہ رہ سکے گا۔ اس اعتبار سے مجرد سورج کا انتظام نظام شمسی میں موجود تمام مخلوقات کے لئے قیامت کا دن ہوگا۔

اور دوسری آیت کے کئی مطالب ہو سکتے ہیں: اول یہ کہ ہماری کہکشاں (مکلی دے ۱۳) کے

تمام ستارے و سیارے آپس ہی میں ٹکرا کر ختم ہو جائیں گے۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی باہمی جذب و کشش (گراویشن) کو ختم کر کے انہیں بکھیر دے گا۔ سوم یہ کہ یہ پوری کائنات جو اربوں کہکشاؤں اور کھربوں ستاروں پر مشتمل ہے (جیسا کہ اکتشافات جدیدہ کے تحت یہ بات پوری طرح متحقق ہے) وہ پوری کی پوری آپس ہی میں ٹکرا کر ختم ہو جائے گی۔ اور یہ بات موجودہ ”نظریہ عظیم دھماکہ“ (بگ بینگ تھیوری ۱۵) کی رو سے بہت ممکن نظر آتی ہے۔ اور حسب ذیل آیت کریمہ میں غالباً اسی قسم کے نظریہ کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے:

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ، كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ. وَغَدَا

عَلَيْنَا، إِنَّا كُنَّا لَفَاعِلِينَ. (النباء: ۱۰۴)

جس دن کہ ہم آسمان کو (اس کے تمام اجرام سمیت) اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح کہ مکتوبہ اوراق کا طومار لپیٹا جاتا ہے، جس طرح ہم نے (اس کائنات کی) تخلیق اول کی ابتدا کی تھی، اسی طرح اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ ایک وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور پورا کریں گے۔

قرآن، حدیث اور سائنس کی مطابقت

موجودہ سائنسی نظریات کی روشنی میں اس قسم کے حقائق کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو گئی ہے۔ ورنہ قدیم نظریات کی روشنی میں اجرام سماوی کی گردش اور ان میں موجود باہم جذب و کشش کا مفہوم واضح نہیں تھا۔ لیکن تعجب ہوتا ہے کہ جدید نظریات و اکتشافات سے بے خبر ہمارے قدیم علماء و مفسرین نے بھی بالکل وہی مفہوم بیان کیا ہے جو جدید اکتشافات سے مطابقت رکھنے والا ہے۔ اور اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ تازہ اکتشافات ہمارے لئے کوئی نئی چیز نہیں رہے، بلکہ اس قسم کے حقائق قرآن تو

قرآن خود احادیث و روایات تک میں بھی بھرے ہوئے ہیں۔ اور اس قسم کے حقائق و معارف کے ملاحظے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف قرآن عظیم سے مطابقت رکھنے والے ہیں بلکہ جدید ترین سائنسی تحقیقات سے بھی پوری طرح ہم آہنگ ہیں۔ اور اس اعتبار سے آج قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث نبوی کی صداقت اور اس کا اعجاز بھی ثابت ہو رہا ہے۔ نیز اس بحث سے راویان حدیث اور قدیم مفسرین کی صدق و سچائی پر بھی ایک نئی روشنی پڑتی ہے کہ انہوں نے تحقیقات جدیدہ سے یکسر ناواقف ہونے کے باوجود پوری ایمانداری کے ساتھ وہی مفہوم ایک ”علمی امانت“ کے طور پر بیان کر دیا جو رسول اکرم ﷺ اور صحابہ و تابعین سے منقول ہے۔

چنانچہ اس سلسلے میں سب سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ جس سورہ میں سورج کی بے نوری یا اس کی موت کی خبر دی گئی ہے اس کا نام ہی ”تکویر“ رکھ دیا گیا ہے۔ یعنی سورج کی ”بساط اللنا“ یا اس کا ”یوریا بستر گول کرنا“، جو اختتام کائنات کی علامت ہے۔ اسی طرح قرآن کے آخری پارہ میں اس سلسلے کی مزید دو سورتیں موجود ہیں جو وقوع قیامت پر سائنسی نقطہ نظر سے نوع انسانی کو متنبہ کرنے والی ہیں اور وہ ہیں سورہ انفطار اور سورہ انشقاق۔ اور ان دونوں میں بھی ”ستاروں کی موت“ اور اختتام کائنات کی خبر دی گئی ہے۔ اور اس اعتبار سے یہ تینوں سورتیں جو مختلف الفاظ و اسالیب میں ہیں، ایک ہی مضمون اور ایک ہی حقیقت کا اعلان کر رہی ہیں۔

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ . وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انشَرَّتْ : جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ (انفطار: ۱-۲)

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ : جب آسمان پھٹ جائے گا۔ (انشقاق: ۱)

چنانچہ ایک حدیث میں مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس کسی کو قیامت کا دن اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے خوشی ہوتی ہو تو اسے چاہئے کہ وہ ”إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ“ اور ”إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ“ اور ”إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ“ پڑھے۔

ظاہر ہے کہ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو کائنات کے اندرونی مجیدوں سے واقف ہو۔ ورنہ مستقبل میں پیش آنے والے علمی حقائق کے پیش نظر ماضی مجید میں کوئی صحیح اصول یا ضابطہ بیان کرنا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اور ضابطہ بھی کیسا؟ وہ جو قرآن کی مختلف آیات اور اس کے مختلف الفاظ کو ایک لڑی میں پرونے والا ہو! اس اعتبار سے قرآن تو قرآن خود حدیث نبوی کی بھی صحت و صداقت ثابت ہوتی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ”سرچشمہ علم“ سے صادر شدہ ہیں ورنہ ان دونوں میں اتنی زبردست مطابقت ہرگز نہ پائی جاتی۔

حدیث کی جانچ کا ایک نیا اصول

واضح رہے کہ اس حدیث کو امام ترمذی نے ”حسن غریب“ کہا ہے، جب کہ امام حاکم نے اسے ”صحیح“ قرار دیا ہے اور امام ذہبی نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ مگر موجودہ دور میں کسی حدیث کی ”صحت“ جانچنے کا صحیح اصول یہ ہونا چاہئے کہ وہ عقلی اور علمی اعتبار سے یا تو قرآن سے ہم آہنگ ہو جائے یا قرآن اور جدید تحقیقات و اکتشافات کے مطابق ہو جائے۔ چاہے اس کی روایتی حیثیت کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح بہت سی ”ضعیف“ حدیثیں بھی اپنے معنی و مفہوم کے لحاظ سے صحیح ثابت ہو سکتی ہیں، جن میں ”تاریخی“ اعتبار سے کچھ ”خامی“ رہ گئی ہو۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک اصول خود احادیث ہی میں اس طرح موجود ہے:

اعرضوا حدیثی علی کتاب اللہ، فان وافقہ فهو منی وانا قلتہ: میری حدیث

کو کتاب اللہ پر پیش کرو، اگر وہ اس کی موافقت کر لے تو وہ میری بات ہے اور اسے میں نے کہا ہے۔^{۱۸}

سئکون عني رواه يروون الحديث، فاعرضوه علی القرآن، فان وافق

القرآن فخذوها والا فدعوها: عنقریب مجھ سے حدیث روایت کرنے والے راوی ہوں گے۔

لہذا تم حدیث کو قرآن پر پیش کرو، اگر قرآن اس کی موافقت کرے تو اسے قبول کر لو ورنہ چھوڑ دو۔^{۱۹}

اس اعتبار سے بھی موجودہ دور میں حدیث شریف پر تحقیقی کام کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ

موجودہ دور کے فتنوں کا صحیح جواب ہو سکے۔ اور خاص کر آج کل جو لوگ حدیث نبوی پر بے اعتباری ظاہر

سورج کی موت اور قیامت

کرتے ہیں ان کا مؤثر طور پر رد ہو سکے۔

غرض موجودہ دور میں کسی راوی کی ”ثقاہت“ یا اس کا ”ضعف“ معلوم کرنے کا معیار بجائے ”روایت“ کے ”درایت“ ہونا چاہئے۔ یعنی حدیث پر علمی و عقلی نقطہ نظر سے بحث کر کے دیکھنا چاہئے کہ اس کی صحت و صداقت کتاب اللہ میں موجود معانی و مضامین کے مطابق ہے یا نہیں؟ اور یہ کام انتہائی دقت نظر اور بصیرت بنی کا طالب ہے۔ مگر اس سلسلے میں یہ حقیقت پیش نظر رہنی چاہئے کہ رسول اکرم ﷺ سے جو بھی قول یا عمل صادر ہوا ہے اور آپ نے جو بھی فیصلے کئے ہیں وہ حسب ذیل آیات کی رو سے قرآن ہی سے ماخوذ اور قرآن فہمی کے تابع ہیں:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ:

اور ہم نے تیرے پاس (کتاب) تذکرہ بھیج دی ہے، تاکہ تو لوگوں کے لئے ان باتوں کی وضاحت کر سکے جو ان کے پاس بھیجی گئی ہیں اور وہ (ان باتوں میں) غور کر سکیں۔ (نحل: ۴۴)

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ: ہم نے تیرے پاس یہ کتاب حقانیت کے ساتھ بھیج دی ہے تاکہ تو لوگوں کے درمیان اللہ کی فہمائش کے مطابق فیصلہ کر سکے۔ (نساء: ۱۰۵)

چنانچہ اس موقع پر کلام الہی میں ”بما اراک اللہ“ کے جو الفاظ استعمال کئے گئے ہیں وہ حد درجہ بلیغ اور قابل غور و جہت ہیں۔ اور اس کا واضح مفہوم یہی ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے تمام فیصلے ”اراءت الہی“ یا ”اللہ کی فہمائش“ کے مطابق ہوا کرتے تھے، جو فہم قرآن ہی کے تابع تھے۔

چنانچہ اس سلسلے میں امام شافعی (م ۲۰۴ھ) کا قول ہے کہ امت (فقہی مسائل میں) جو کچھ بھی کہتی ہے وہ حدیث کی شرح ہے، اور حدیث جو کچھ کہتی ہے وہ قرآن کی شرح ہے۔

جميع ما تقوله الامة شرح للسنة، وجميع السنة شرح للقرآن. ۱۰

اور اس سلسلے میں خود رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

سورج کی موت اور قیامت

انہی لا احل إلا ما احل الله في كتابه، ولا احرم إلا ما احرم الله في كتابه: میں اپنی طرف سے کوئی چیز حلال نہیں کرتا سوائے اس کے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا ہے۔ اور میں اپنی طرف سے کوئی چیز حرام نہیں کرتا سوائے اس کے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا ہے۔^۱

اس اعتبار سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں ایک ہی سرچشمہ سے صادر شدہ ہیں۔ زبان نبوت سے جو بھی بات نکلی ہے وہ کتاب اللہ ہی کی شرح و تفسیر ہے، چاہے وہ فقہی مسائل سے متعلق ہو یا غیر فقہی امور سے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ارشاد باری ہے:

وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. (نجم: ۳-۴)

وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا۔ یہ تو وحی ہے جو اس پر آتی ہے۔

قدیم مفسرین کے انکشافات

بہر حال آئیے دیکھیں کہ سورج کی موت کے بارے میں قدیم مفسرین کیا کہتے ہیں؟ چنانچہ دنیائے اسلام کی سب سے قدیم تفسیر، ابن جریر طبری (م ۳۱۰ھ) کی جامع البیان فی تفسیر القرآن قرار دی جاتی ہے، اور اس میں سورج کی ”مکور“ یعنی اس کی بساط لپیٹے جانے کے سلسلے میں حسب ذیل حقائق ملتے ہیں، جو صحابہ و تابعین اور تبع تابعین سے منقول ہیں:

۱- حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ إِذَا لَشَّمْسُ كُوْرَتْ سے مقصود یہ ہے کہ وہ تاریک ہو جائے گا۔ (كُوْرَتْ: اُظْلِمَتْ)

۲- حضرت ابن عباسؓ سے ایک دوسرا قول یہ بھی مروی ہے کہ سورج ناپید ہو جائے گا۔

(كُوْرَتْ: ذَهَبَتْ)

۳- مجاہدؓ سے مروی ہے کہ وہ مضطرب ہو کر ختم ہو جائے گا۔ (اضْمَحَلَّتْ وَذَهَبَتْ)

۴- قتادہؓ سے مروی ہے کہ اس کی روشنی ختم ہو جائے۔ (ذَهَبَ ضَوْؤُهَا)

۵- سعیدؓ سے مروی ہے کہ سورج اندھا ہو جائے گا۔ (غُوْرَتْ: وَهِيَ بِالْفَارِ سَبِيَّةٌ كُوْرَتْ تَكُوْرٌ)

سورج کی موت اور قیامت

۶- ضحاک سے مروی ہے کہ اس سے مراد سورج کا خاتمہ ہے۔ (ذَهَابُهَا)

۷- ابوصالح سے مروی ہے کہ سورج اُلٹا دیا جائے۔ (نُبْكَسَتْ)

۸- ابوصالح ہی سے مروی ہے کہ سورج نیچے ڈال دیا جائے گا۔ (الْقَيْتُ)

۹- ربیع بن خثیم سے مروی ہے کہ سورج پھینک دیا جائے گا۔ (رُمِي بِهَا)

اس کے بعد علامہ ابن جریر تحریر کرتے ہیں کہ کلام عرب میں تکویر کے معنی کسی چیز کے ایک حصے کو اس کے دوسرے حصے سے ملانے کے ہیں۔ جیسے پگڑی لپیٹنا، جو سر پر باندھی جاتی ہے، یا جیسے کپڑوں کی گٹھری باندھی جاتی ہے۔ اسی طرح سورج کو لپٹنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے بعض حصے کو بعض سے ملا کر لپیٹا جائے اور اسے پھینک دیا جائے۔ اور جب یہ واقعہ ہوگا تو اس کی روشنی زائل ہو جائے گی۔ لہذا اس تاویل کی رو سے مذکورہ بالا دونوں قسم کے اقوال (سورج کی روشنی کا زائل ہونا اور اسے پھینک دیا جانا) صحیح ہیں۔ نتیجہ یہ کہ جب سورج کو لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا تو اس کی روشنی زائل ہو جائے گی۔

والتكوير في كلام العرب جمع بعض الشيء إلى بعض . وذلك كتكوير العمامة وهو لفها على الراس، وكتكوير الكارة وهي جمع الثياب بعضها إلى بعض ولفها . وكذلك قوله إذا الشمس كورت، إنما معناه جمع بعضها إلى بعض، ثم لفت ورمي بها . وإذا فعل ذلك بها ذهب ضورها فاعلى التأويل الذي تأولناه وبيناه لكلا القولين للذين ذكرت عن اهل التأويل وجه صحيح . وذلك انها إذا كورت ورمي بها ذهب ضوءها . ۲۲

واضح رہے سورج کی تکویر یا اس کی بساط لپیٹ دینا بطور ”استعارہ“ ہے جو بلاغت کی ایک قسم ہے۔ اور اس اعتبار سے یہ انتہائی درجہ معنی خیز حقیقت ہے۔

بہر حال حیرت ہوتی ہے کہ علامہ موصوف نے جدید سائنسی تحقیقات سے ناواقفیت کے باوجود اس کی صحیح صحیح تاویل کس طرح کر دی جو عین مطابق واقعہ ہے! اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی

سورج کی موت اور قیامت

بات یہ کہ حضرت ابن عباسؓ سے لے کر ربیع بن خثیم تک تمام قدیم مفسرین کا تال اور سر مشترک کس طرح بن گیا؟ الفاظ اگرچہ مختلف ہیں مگر نتیجہ سب کا ایک ہی ہے۔ لہذا اس موقع پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے یہ سب باتیں اپنے دل سے گھڑ کر پیش کی ہیں؟ ظاہر ہے کہ اگر بات ایسی ہوتی تو ان سب اقوال میں معنوی اتحاد ہرگز نہ پایا جاتا۔ لہذا امانا پڑے گا کہ یہ سب باتیں رسول اکرم ﷺ ہی سے سن کر بیان کی گئی ہوں گی۔ کیونکہ ایک ہی حقیقت کو مختلف اسالیب میں بیان کیا گیا ہے، جن میں کوئی تعارض و تضاد نہیں ہے۔ لہذا قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ مفسرین اور راویان حدیث کی یہ مطابقت بھی اسلام کا ایک زبردست اعجاز نہیں تو پھر کیا ہے؟

راویان حدیث کی صداقت

واقعہ یہ ہے کہ یہ بات صرف ابن جریر طبریؒ ہی تک محدود نہیں، بلکہ اس سلسلے میں حدیث اور تفسیر کی تمام کتابوں میں ”تکویر“ اور انقطاع“ وغیرہ کے تعلق سے یہی تمام حقائق مذکور ہیں، جو علمی حلقوں کی آنکھیں کھولنے کے لئے بہت کافی ہیں۔ اور ان حقائق و معارف کے ملاحظے سے ظاہر ہوتا ہے کہ دین میں ٹکوینیات یا سائنسی علوم کی کس قدر اہمیت ہے، جنہیں آج خود مسلمان نظر انداز کئے ہوئے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ وہ علوم و حقائق ہیں جن کے ذریعہ آج ساری دنیا کو اٹھایا اور بٹھایا جاسکتا ہے اور ان کی بنیاد پر ایک ایسا فکری انقلاب لایا جاسکتا ہے جو اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا علمبردار ہوگا اور احیائے علم اور احیائے دین کا باعث بنے گا۔ آج دین کی تجدید علم کی تجدید ہی پر موقوف ہے۔ کیونکہ موجودہ دور میں ”علم“ کو جو اہمیت حاصل ہوگئی ہے وہ سابقہ کسی بھی دور میں نہیں تھی۔

غرض آئیے اس سلسلے میں سب سے پہلے دنیائے اسلام کی سب سے زیادہ مستند ترین کتاب (کتاب اللہ کے بعد) ”بخاری“ سے اپنے مطالعہ کا آغاز کریں۔ چنانچہ امام بخاریؒ (م ۲۵۶ھ) نے کتاب بدی الخلق“ (ابتدائے تخلیق) میں جہاں پر چاند اور سورج کی بعض صفات و خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر حضرت حسن بصریؒ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ تکویر سے مراد سورج کی بے نوری ہے:

وقال الحسن: كورت تكور حتى يذهب ضوءها. ۲۳

نیز علامہ ابن کثیر (م ۷۷۴ھ) نے ”تفسیر القرآن العظیم“ میں اور علامہ جلال الدین سیوطی (م ۹۱۱ھ) نے تفسیر درمنثور میں ”تکویر“ اور ”انکدار“ کی تفسیر میں تقریباً وہی تمام معانی پیش کئے ہیں جو تفسیر ابن جریر میں مذکور ہیں۔ مثلاً: (۱) اُظْلِمَتْ: تاریک ہو جائے گا۔ (۲) عُورَتْ يَا عُورَتْ: دھنسا دیا جائے گا۔ (۳) رُمِيَ بِهَا: پھینک دیا جائے گا۔ (۴) نُكِسَتْ: پھیر دیا جائے گا۔ (۵) اِضْمَحَلَتْ کمزور ہو جائے گا۔ (۶) ذَهَبَ ضَوْءُهَا: اس کی روشنی زائل ہو جائے گی۔ (۷) وہ اندھا ہو جائے گا۔

اور ”وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ“ کی تفسیر میں مختلف روایات کے تحت حسب ذیل اقوال منقول ہیں: (۱) تَفَيَّرَتْ سُتَارَے بدل جائیں گے (۲) تَنَافَسَتْ: منتشر ہو جائیں گے۔ (۳) تَسَاقَطَتْ: جھڑ پڑیں گے۔ (۴) تَسَاقَطَتْ وَتَهَاقَتَتْ: لڑکھڑا جائیں گے۔ ۲۴

چنانچہ انہی تمام روایات کی بنا پر پورے ذخیرہ تفسیر میں یہی سب اقوال گردش کر رہے ہیں، جو بالکل صحیح ہیں۔ اور امام رازی (م ۶۰۶ھ) نے لغوی اعتبار سے اس کے حسب ذیل معنی بیان کئے ہیں: (۱) تکویر کی دو صورتیں ہیں: اول یہ کہ کسی چیز کو گولائی کے طور پر لپیٹنا، جس طرح کہ عمامہ لپیٹا جاتا ہے۔ اور اس اعتبار سے لفظ طُحِي، لَفَتْ، کُوِّرَ اور تَكْوِيرٌ سب ایک ہی معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے دھوبی کی گٹھری کو ”کارۃ“ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ تمام کپڑوں کو ایک کپڑے میں باندھ لیتا ہے۔ (۲) دوم یہ کہ اس سے مراد گرا دینا یا ڈھا دینا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: كُورَتِ الْحَانِطِ وَدَهْوَرَتِه: یعنی میں دیوار کو دھکا دے کر گرا دیا۔ تو اس صورت میں إِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ کا مطلب ہوگا کہ سورج کو آسمان سے گرا دیا جائے گا۔ (القیبت ورمیت عن الفلک)۔ نیز اس کے علاوہ ایک تیسرا قول بھی حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ یہ لفظ فارسی زبان سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ”عور“ یعنی اندھے کے ہیں۔ ۲۵

سورج کی موت اور قیامت

اسی بنا پر اہل لغت نے بھی یہی تمام معنی بیان کئے ہیں جو دو راول ہی سے مشہور و مقبول رہے ہیں۔ چنانچہ لسان العرب اور تاج العروس وغیرہ لغت کی تمام بڑی کتابوں میں یہی معانی و مطالب منقول ہیں۔ اور ان تمام کی مثالیں دینا اس موقع پر تطویل کا باعث ہوگا۔ ۲۶

سورج اور چاند کا خاتمہ

یہ تھی سورج کی ”طبیعی موت“ کی داستان، جو عبرتوں اور بصیرتوں سے بھرپور ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیے سورج کے ساتھ ساتھ چاند کی موت اور ان دونوں اجرام یعنی آفتاب و ماہتاب کی مشترکہ داستان اور ان دونوں کا انجام۔

چنانچہ بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن آفتاب و ماہتاب دونوں کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ (الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ)۔ ۲۷

بعض دیگر روایات میں مذکور ہے کہ چاند اور سورج کو پیر کئے ہوئے بیلوں کی طرح ”معدوز“ بنا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

الشمس والقمر ثوران عقیران فی النار. ۲۸

ایک اور حدیث کچھ اضافے کے ساتھ اس طرح آئی ہے کہ چاند اور سورج کو پیر کئے ہوئے بیلوں کی طرح دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اگر اللہ نے چاہا تو ان دونوں کو باہر نکالے گا ورنہ اسی میں رہنے دے گا۔

الشمس والقمر عقیران فی النار، إن شاء اخر جہما وإن شاء ترکہما. ۲۹

اس حدیث کو علامہ عبدالرؤف مناوی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ۳۰

ان احادیث میں لفظ ”عقیران“ عقیر کا تثنیہ ہے، جو ”عقر“ سے ماخوذ ہے۔ اور اس کے

اصل معنی اونٹ یا بکری کے پیر تلوار سے کاٹ دینے کے ہیں۔ ۳۱

اس موقع پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاند اور سورج کو ”پیر کٹے ہوئے بیلوں“ سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کی ”دوڑ“ (جری) یا ”تیراکی“ (سباحت ۳۲) روک دی جائے گی تو گویا کہ وہ ”بے دست و پا“ یا ”مخدور“ بن کر رہ جائیں گے ۳۳۔ ان کی دوڑ روکنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی ”قوت کشش“ (گراوٹیشن) ختم کر دی جائے، جس کی وجہ سے وہ دوڑنے یا تیرنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ تب انہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔

اس موقع پر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر چاند سورج کا قصور کیا ہے جنہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا؟ اور یہ سوال اٹھانے والے امام حسن بصریؒ ہیں۔ تو اس کا جواب امام خطابیؒ نے اس طرح دیا ہے کہ: اس سے مقصود چاند اور سورج کو عذاب دینا نہیں، بلکہ یہ بات چاند سورج کی عبادت کرنے والوں کی سرزنش کی غرض سے ہے، تاکہ وہ جان لیں کہ ان اجرام کی عبادت کرنا ایک باطل حرکت تھی۔ ۳۴

حافظ ابن حجرؒ نے عطاء بن یسارؒ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ارشاد باری: وجمع الشمس والقمر (اور آفتاب و ماہتاب کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ (سورہ قیامہ: ۹) اس سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں کو یکجا کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ۳۵

اسلام ایک فطری اور سائنٹفک مذہب

اس بحث سے بخوبی ظاہر ہو گیا کہ چاند، سورج اور ستارے سب کے سب فانی چیزیں ہیں، جن کو بقا و دوام حاصل نہیں ہے۔ لہذا چاند ستاروں کی عبادت کرنا درست نہیں ہو سکتا۔ عبادت و بندگی تو اس کی جاتی ہے جو زندہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہو۔ مگر دنیائے انسانیت کی یہ بہت بڑی بد قسمتی ہے کہ غلط قیاس کی وجہ سے چاند سورج کو معبود و مسجود بنا لیا گیا۔ چونکہ ان دونوں سے دنیا والوں کو روشنی اور

حرارت ملتی ہے اس لئے بعض قوموں نے انہیں معبودیت کے درجے پر فائز کر دیا۔ چنانچہ ایک حدیث کے مطابق جو امام ابن سیرین سے مروی ہے، مذکور ہے کہ (غلط) قیاس سے کام لینے والا اولین فرد ابلیس تھا۔ اور آفتاب و ماہتاب کی پرستش بھی (غلط) قیاسات ہی کی بنیاد پر کی گئی۔ (اول من قاس ابلیس۔

وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقایس) ۳۶

اسی لئے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ عبادت کسی مخلوق کی کرنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ عبادت تو اس کی کی جاتی ہے جو تمام مخلوقات کا خالق اور رب ہو۔ چنانچہ فرمان الہی ہے:

وَمِن آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ
وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. (حم سجدہ: ۳۷)

رات دن اور آفتاب و ماہتاب اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم سورج کو سجدہ نہ کرو اور نہ چاند کو (بلکہ) اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔

اور آج علم و تحقیق کے اجالے میں یہ حقیقت پوری طرح عیاں ہو چکی ہے کہ چاند سورج خالق نہیں مخلوق، معبود نہیں عابد اور متبوع نہیں بلکہ ادنیٰ درجے کے تابعدار ہیں، جو بہت جلد غائب ہونے والے ہیں۔ لہذا جن لوگوں نے ان کو معبود و مسجود بنا کر ان کی پرستش کی انہوں نے ایک فعل عبث ہی نہیں کیا بلکہ مخلوق کو معبود کے درجے میں رکھتے ہوئے خدا کی خدائی میں انہیں شریک کر دیا، جو خلاق عالم کے نزدیک ایک ناقابل معافی جرم اور اسے غصہ دلانے والی بات ہے۔ اسی لئے فرمایا گیا ہے:

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ، أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ. (انبیاء: ۹۸)

تم اور تمہارے وہ معبود جو اللہ کے سوا ہیں وہ سب یقیناً جہنم کا ایندھن ہیں، تم اس میں داخل

ہو کے رہو گے۔

ظاہر ہے کہ مشرکین کا یہ انجام فطری اور سائنٹفک نقطہ نظر سے بالکل مطابق واقعہ ہے۔

دیکھئے اسلام کے احکام اور اس کی عقلی حکمتیں اور بصیرتیں کہ وہ کس قدر گہرے تفکر و تعقل پر مبنی ہیں۔ کیا

ایسا پر از حکمت کلام جو اس کائنات کے اسرار سر بستہ کی نقاب کشائی کرنے والا ہو، کوئی انسان پیش کر سکتا ہے؟ اسلامی تعلیمات میں قدم قدم پر عقل و دانش کا مظاہرہ نظر آتا ہے، جو نظام فطرت کے عین مطابق ہے۔ لہذا اس کے من جانب اللہ ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔

حرکیات حرارت کا دوسرا قانون

دنیا نے سماوات میں سورج اختتام کائنات کا شاہد عدل ہے جو ”انجام حیات“ کی گواہی دے رہا ہے۔ اور اس گواہی کو جھٹلانے والی کوئی چیز اس عالم آب و گل میں موجود نہیں ہے۔

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. لَيْسَ لِيُؤَفِّعَهَا مَكَاذِبَةٌ: جب واقع ہونے والی چیز (قیامت) واقع ہو جائے گی۔ جس کے وقوع کو جھٹلانے والی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ (واقعہ: ۱-۲)

اختتام کائنات کے سلسلے میں ایک واقعہ تو وہ ہے جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ اور اس ضمن میں دوسرا واقعہ وہ ہے جسے ”حرکیات حرارت کا دوسرا قانون“ (سکنڈ لاء آف تھر موڈ انٹناکس) کہا جاتا ہے۔ چنانچہ طبیعیاتی نقطہ نظر سے اس قانون کی رو سے بھی کائنات کا اختتام یقینی نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس رفتار سے ہماری کائنات میں حرارت کی تقسیم ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں ایک دن ایسا ضرور آنے والا ہے جب کہ اس کائنات کے تمام مظاہر یکساں درجہ حرارت پر پہنچ جائیں گے۔ اس وقت کائنات کی کوئی بھی چیز نہ گرم رہے گی اور نہ سرد۔ اور یہ درجہ حرارت اس قدر کم ہوگا کہ جاندار اشیاء کا زندہ رہنا ممکن نہ رہے گا۔

چنانچہ اس سلسلے میں مشہور سائنس دان سر جیمز جینس تحریر کرتا ہے: ”طبیعیات کا وہ اصول جو علم حرکیات حرارت کے اصول ثانی کے نام سے مشہور ہے یہی پیش گوئی کرتا ہے کہ کائنات کا صرف ایک ہی انجام ہو سکتا ہے اور وہ ہے قلت حرارت کی موت۔ یعنی ہوگا یہ کہ تمام کائنات میں حرارت کی تقسیم یکساں ہو جائے گی اور ہر جگہ یکساں درجہ حرارت پیدا ہو جائے گا، جو اس قدر کم ہوگا کہ حیات کا زندہ رہنا ناممکن ہو جائے گا۔“ (۳۷)

ستارے امن کے پیامبر

اس بحث سے معلوم ہوا کہ اس کائنات میں ایک ہمدان (سب کچھ جاننے والی) اور ایک زبردست قوت والی ہستی ضرور موجود ہے، جس کے اشاروں پر یہ کائنات وجود میں آئی ہے اور اس کے ایک اشارے پر یہ فنا ہو جائے گی۔ چاند، سورج، ستارے اور کہکشاؤں سب کے سب اسی کے حکم کے تابع اور فرمانبردار ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری ہے:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ. تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. (اعراف: ۵۴)

تمہارا رب یقیناً اللہ ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن (چھ مدارج) میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ وہ رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے، جو اس کے پیچھے تیزی سے آ جاتی ہے۔ اور سورج، چاند اور ستارے (سب کے سب) اس کے حکم کے تابع ہیں۔ جان لو کہ (تمام مخلوقات کو) پیدا کرنا اور ان پر حکم چلانا اسی کا کام ہے۔ اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. (نحل: ۱۲)

اور اس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ اور اسی کے حکم سے ستارے بھی زیر قابو ہیں۔ ان مظاہر میں سمجھنے والوں کے لئے (بہت سی) نشانیاں (دلائل ربوبیت) موجود ہیں۔

اس لحاظ سے چاند ستارے اور تمام اجرام سماوی حکم الہی کے منتظر ہیں۔ جیسے ہی حکم ہوگا یہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ستارے آسمان کے لئے امن (کی نشانی) ہیں۔ جب وہ نیست و نابود ہو جائیں گے تو وقت موعود آ جائے گا۔

سورج کی موت اور قیامت

النجوم اعنة السماء. فإذا ذهب النجوم اتى السماء ما توعده. ۳۸

کسوف و خسوف اور حکمت نبوی

اس موقع پر یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ کسوف و خسوف (سورج گرہن اور چاند گرہن) کے جو مناظر ہر سال ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں وہ ایک حیثیت سے ہمارے لئے ایک تنبیہ کا درجہ رکھتے ہیں کہ چاند اور سورج کی روشنی کچھ لمحوں یا کچھ گھنٹوں کے لئے ہماری نگاہوں سے جو غائب ہو جاتی ہے، وہ قیامت کی یاد دلانے کی غرض سے ہے، تاکہ انسان غفلت کی نیند سے بیدار ہو اور اللہ کی طرف رجوع و انابت کا راستہ اختیار کرے۔ اسی بنا پر رسول برحق حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے چاند اور سورج کو اللہ کی نشانیاں قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے:

إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد من الناس، ولكنهما آيتان من

آيات الله. فإذا رايتموهما فقوموا فصلوا. ۳۹

سورج اور چاند کو کسی شخص کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ لیکن یہ دونوں مظاہر اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جب تم انہیں (سورج گرہن اور چاند گرہن کو) دیکھو، تو نماز پڑھو۔
قدیم زمانے میں لوگوں کا یہ غلط عقیدہ تھا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کسی بڑے آدمی کی موت کے باعث واقع ہوتے ہیں۔ لہذا آپ ﷺ نے اس کی تردید فرمائی۔ لیکن اس موقع پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسوف و خسوف کے موقع پر رسول اکرم ﷺ نے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پچھلے صفحات میں مذکور حقائق کے مطابق ہمارا سورج کسی بھی وقت اچانک ایک ”سرخ دیو“ بن کر پھٹ سکتا ہے۔ چنانچہ جارج گیمو کے بیان کے مطابق ”اندازہ لگایا گیا ہے ہماری کائنات میں اب تک چالیس ارب ستارے پھٹ چکے ہیں“۔ ۴۰

لہذا ہو سکتا ہے کہ سورج گرہن کے موقع پر اچانک اس کی موت اور وقوع قیامت کا اعلان

سورج کی موت اور قیامت

کر دیا جائے۔ غالباً یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ”آخری وقت“ میں رجوع الی اللہ اور توبہ و استغفار کی غرض سے نماز اور دعا کی دعوت دی ہو، تاکہ اہل اسلام کا خاتمہ بالخير ہو سکے۔

واضح رہے اس موقع پر راقم سطور نے جو کچھ عرض کیا ہے وہ بعض احادیث کی روشنی میں ایک قوی امکان نظر آتا ہے۔ چنانچہ بخاری کی ایک حدیث میں مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے دور میں جب سورج گرہن واقع ہوا تو آپ فوراً نماز کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور حالت یہ تھی کہ آپ اپنی چادر مبارک کھینچتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ اور یہ کیفیت اس بنا پر تھی کہ آپ پر شاید گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ اور پھر آپ نے ہمارے ساتھ دو رکعت نماز پڑھی، یہاں تک کہ سورج گرہن زائل ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند کسی کی موت کی وجہ سے گہناتے نہیں۔ جب تم انہیں دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ یہ حدیث بخاری میں حضرت ابو بکرؓ سے مروی ہے، جس کے اصل الفاظ یہ ہیں:

قال، کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فانکشف الشمس، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجر رداءه حتی دخل المسجد، فدخلنا فصلی بنا رکعتین، حتی انجلت الشمس. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: إن الشمس والقمر لا ینکسفان لموت احد فإذا رایتما فصلوا وادعوا حتی ینکشف ما بکم. ۱۱

بخاری ہی کی ایک اور حدیث کے مطابق منبر صادق حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم اس مظہر قدرت کو دیکھو تو اللہ سے دعا مانگو، تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ پھر فرمایا کہ اے امت محمد! تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ سے زیادہ غیرت مند ہو، جب کہ اس کا کوئی بندہ یا اس کی کوئی بندی زنا کرے۔ اے امت محمد! اللہ کی قسم اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسو گے اور بہت زیادہ رو دو گے۔ ۱۲

سورج کی موت اور قیامت

ایک اور حدیث کے مطابق مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانے کی غرض سے کسوف و خسوف کو وقوع میں لاتا ہے۔

إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله، لا ینکسفان لموت احد، ولكن الله تعالیٰ ینخوف بهما عباده. ۲۳

بعض احادیث میں مذکور ہے کہ یہ دونوں مظاہر اللہ کی آیتوں (نشانات ربوبیت) میں سے ہیں، جو کسی کی موت یا حیات کے باعث گہناتے نہیں۔ لہذا جب تم ان مظاہر کو دیکھو تو گھبراہٹ کے ساتھ نماز کے لئے دوڑ پڑو۔

قال: هما آیتان من آیات الله، لا ینکسفان لموت احد ولا لبحاتہ، فإذا رایتما فافزعوا إلى الصلاة. ۲۴

دراخ رہے اس موقع پر لفظ ”فزع“ لایا گیا ہے، جس کے اصل معنی خوف کے ہیں۔ اس موقع پر اس سے مراد یہ ہے کہ تم ایسے وقت نماز میں پناہ لو اور اللہ سے دعا مانگو تا کہ یہ حادثہ (بخیر و خوبی) ٹل جائے۔
(فاهز عوا إلى الصلاة) ای الجاوا إليها. واستعینوا بها علی دفع الامر الحادث. ۲۵

ان تمام احادیث سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ کسوف و خسوف میں کوئی بہت بڑا راز پوشیدہ ہے، اور یہ مظاہر وقوع قیامت کی واضح علامتوں میں سے ہیں۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ قیامت ایسے ہی مواقع پر واقع ہو جائے۔ اور یہ بات اس لحاظ سے بھی بہت ممکن نظر آتی ہے کہ جب چاند، سورج اور زمین تینوں ایک لائن میں آجائیں تو اس وقت سورج اچانک ایک ”سرخ دیو“ بن کر دھماکے کے ساتھ پھٹ جائے۔ جس کے نتیجے میں وہ ”سفید ہونا“ بن کر ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ اس طرح غالباً اس کی قوت ”جذب و کشش“ ختم ہو جائے گی اور پھر یہ تینوں اجرام آپس میں ٹکرا کر ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایسے مواقع پر ہمارے نظام شمسی کے دیگر سیارے بھی ایک ہی لائن میں ہوں (جیسا کہ بعض مواقع پر

سورج کی موت اور قیامت

ہوتا ہے) اور سب کے سب یکبارگی ٹکرا کر فنا ہو جائیں۔ اس قسم کے امکانات کو سمجھنا جدید فلکیاتی نظریات کی رو سے بہت آسان ہو گیا ہے۔ لہذا قرآن اور حدیث کے حقائق تحقیقات جدیدہ کی روشنی میں کھل کھل کر سامنے آ رہے ہیں، جو ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث ہیں۔ اسی لئے ارشاد باری ہے کہ قرآن عظیم نہ صرف ”ہر چیز کی وضاحت کرنے والا“ اور اہل ایمان کو خوشخبری سنانے والا ہے، بلکہ وہ ان کے قدموں کو جانے والا بھی ہے، تاکہ دنیوی انکار و حوادث ان کے پائے ثبات کو لرزانا نہ سکیں۔

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ.

ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب اتاری ہے جو ہر چیز کی خوب وضاحت کرنے والی ہے۔ اور وہ مسلمانوں کے لئے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔ (نحل: ۸۹)

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُنَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ: کہہ دو کہ اس کلام کو روح القدس نے تیرے رب کی جانب سے حقانیت کے ساتھ اتارا ہے، تاکہ وہ ایمان والوں کے قدموں کو جمادے۔ اور وہ اہل اسلام کے لئے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ (نحل: ۱۰۲)

کائنات کی منصوبہ بندی

اس بحث سے بخوبی واضح ہو گیا کہ یہ پوری کائنات ایک منصوبہ بند عمل ہے، نہ کہ کوئی اللہ شب وجود۔ اور اس کائنات کی کوئی بھی چیز اس حقیقت عظمیٰ کی تکذیب کرنے والی موجود نہیں ہے۔ بلکہ اس جہاں آب و خاک کے تمام مظاہر اسی کی شہادت دے رہے ہیں اور سب کا ایک ہی ”راگ“ ہے کہ یہاں کی ہر چیز آئی جانی ہے اور چاند ستارے بھی اس قانون سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ بلکہ یہ ایک ہمہ گیر ”قانون قدرت“ ہے۔ چنانچہ اس خدائی حکمت اور منصوبہ بندی کا اظہار حسب ذیل آیات میں کیا گیا ہے:

وَعَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ فَعَلْدَرَةً نَّعْلِدِرًا: اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک اندازہ

(منصوبہ) مقرر کیا۔ (فرقان: ۲)

سورج کی موت اور قیامت

إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ: ہم نے ہر چیز یقیناً ایک اندازے (منصوبے) کے ساتھ پیدا کی ہے۔ اور (کسی چیز کے وقوع کے بارے میں) ہمارا حکم بس ایک بات ہے (کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے) جیسا کہ پلک کا جھپکنا۔ (قر: ۴۹-۵۰)

چنانچہ اس کائنات میں تمام واقعات اسی خدائی پلان اور منصوبہ بندی کے تحت رونما ہو رہے ہیں۔ اسی لئے فرمان خداوندی ہے کہ ہم نے یہ کائنات کھیل کود میں یا ایل شپ پیدا نہیں کی۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ: اور ہم نے زمین و آسمان اور ان دونوں کے درمیان مظاہر کو کھیل کود میں پیدا نہیں کیا۔ (انبیاء: ۱۶)

بہر حال اس خدائی منصوبہ بندی کے تمام ”اصول و ضوابط“ قرآن اور نظام کائنات کی تطبیق کے ذریعہ دو اور دو چار کی طرح بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ حسب ذیل آیت کریمہ اس خدائی ضابطے کا اعلان کر رہی ہے:

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ: اللہ وہی ہے جس نے کتاب اور میزان دونوں کو حقیقت (مطابقت) کے ساتھ اتارا ہے۔ اور تجھے کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی ہو۔ (شوری: ۱۷)

اس موقع پر میزان سے مراد یہ پوری کائنات ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس کائنات کی ہر چیز اپنے نفیس ترین طبعی ضوابط کی رو سے ”میزان“ کا ایک نمونہ ہے۔ یعنی اس جہاں رنگ و بو کی ہر چیز بالکل ”نپے تلتے“ انداز میں رواں دواں ہے اور ان کے اصولوں میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہو رہی ہے، چاہے وہ ایک ننھا سا ایٹم ہو یا ایک مکمل نظام شمسی۔ تمام حیوانات و نباتات اور جمادات و سماوات سب کے سب طبعی ضوابط کے پابند ہیں۔ اور پھر یہ تمام ”اجزائے کائنات“ مل کر ایک عظیم اور منظم عمل کی نشاندہی کر رہے ہیں، جس کی تعبیر کے لئے ”میزان“ سے بہتر لفظ نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نقطہ نظر سے مظاہر کائنات کی مفصل شرح و تفسیر کی جائے تو اس کے لئے دفتروں کے دفتر بھی ناکافی ہوں گے۔ میزان کے اس مفہوم کی تائید حسب ذیل آیات سے بھی ہوتی ہے، جن کے مطابق خلاق عالم نے زمین سے لے کر

سورج کی موت اور قیامت

آسمان تک تمام مظاہر فطرت کو ایک ”میزانی ضابطے“ کا پابند بنا رکھا ہے:

الْشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا

وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. (رحمن: ۵-۸)

سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ نجم و شجر سر بسجود ہیں۔ (چنانچہ) اللہ نے

آسمان کو اونچا اٹھایا اور (زمین سے آسمان تک) میزان رکھ دی۔ (پھر تمام مظاہر کائنات کو حکم دیا کہ تم

اس میزان سے تجاوز نہ کرو۔

میزان کیا ہے؟

ان آیات کریمہ میں تین بنیادی حقائق بیان کئے گئے ہیں:

۱- تمام مظاہر کائنات قانون الہی کے پابند ہیں۔ چنانچہ اس مقصد کی تعبیر کے لئے آفتاب

و ماہتاب کے ایک حساب سے چلنے اور نجم و شجر کی طبعی اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعہ اشارہ کیا گیا ہے۔

مفسرین نے لفظ ”نجم“ کے دو معنی بیان کئے ہیں: ایک بغیر تہ و والی تیل، اور دوسرے آسمانی ستارہ ۳۸۔

غرض اس موقع پر بعض آسمانی اور بعض زمینی مظاہر کا تذکرہ کر کے گویا کہ یہ اشارہ کر دیا کہ زمین سے

آسمان تک تمام مظاہر ایک مقررہ قانون کی پابندی کرتے ہوئے گویا کہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یعنی طبعی

اعتبار سے اس کی اطاعت و فرمانبرداری کر رہے ہیں، اس کی حکم حدودی نہیں کر سکتے۔ اس موقع پر درختوں

کے سجدہ کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ تو اس کی تاویل دو طرح سے کی گئی ہے: (الف) یہ سجدہ انقیادی اعتبار

سے ہے (و مسجودہما انقیادہما للہ فیما خلقا لہ) ۳۹۔ (ب) درختوں کے سائے صبح شام سجدہ

ریز رہتے ہیں۔ (واما یسجدان فبانہ عنی بہ سجود ظلہما) ۴۰۔

اس موقع پر علامہ ابن جریر نے اپنے اس قول کی تائید میں حسب ذیل آیت پیش کی ہے:

وَلِئِنَّہِ یَسْجُدُ مِن فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَتَكْرَہًا وَظِلَالًا لَّهُمْ بِالْغُلُوِّ

سورج کی موت اور قیامت

وَالْأَضَالِ. (رعد: ۱۵)

زمین اور آسمانوں میں جو کوئی بھی ہے وہ چاروں طرف اللہ ہی کے لئے سجدہ ریز ہے، اور صبح و شام ان کے سائے بھی (سربسجود ہیں)۔

اسی طرح حسب ذیل آیت کریمہ اس حقیقت پر دلیل ناطق ہے کہ تمام موجودات عالم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یعنی طبیعی ضوابط کی رو سے اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگے ہوئے ہیں:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّيْلَ يَسْجُدُ لَكَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ

وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. (حجج: ۱۸)

اے مخاطب! کیا تو نے مشاہدہ نہیں کیا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ اللہ ہی کو سجدہ کر رہا ہے، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بہت سے لوگ بھی (اس کو سجدہ کر رہے ہیں؟)

اس اعتبار سے اس کائنات کی کوئی بھی شے خدائی حدود و ضوابط سے آزاد نہیں ہے کہ وہ جو چاہئے کرے۔ بلکہ سب کے سب ایک ہمہ گیر قانون اور نظام میں جکڑے ہوئے ہیں۔

واضح رہے لفظ ”سجود“ کے اصل معنی لغت کی رو سے خود سپردگی اور اطاعت کے ہیں۔ (اصل

السجود الاستسلام والانقياد لله عزوجل) ۱۵

۳- خالق کائنات نے آسمان کو اونچا کر کے ایک ”میزان“ رکھ دی ہے۔ یعنی زمین سے آسمان تک ایک ”میزانی نظام“ قائم کر دیا ہے۔ چنانچہ جمادات کا ایک نظام ہے، نباتات و حیوانات کا اپنا ایک الگ نظام ہے، اور سماوات یا اجرام سماوی کا ایک منفرد نظام ہے۔ اس طرح سب کے سب اپنے اپنے نظاموں کی پابندی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان نظاموں کے تفصیلی مطالعے کے لئے کئی ضخیم جلدیں درکار ہوں گی۔ لیکن پھر بھی ان کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ کیونکہ انسانی علم نہایت درجہ ناقص ہے، اگرچہ اس نے طبیعی و حیاتیاتی علوم میں بے انتہا ترقی کر لی ہے۔ اور ایک ٹھنڈے سے

سورج کی موت اور قیامت

ایٹم کا سینہ تک چیر کر اسرار و معارف کی ایک دنیا دریافت کر لی ہے۔ غرض ارض و سما، آفتاب و ماہتاب، دریا و پہاڑ، حجر و شجر، مرغ و ماہی اور حیوان و انسان سب کے سب ایک متعین و محکم نظام اور قانون ربوبیت میں بندھے ہوئے ہیں۔

میزان سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کے تین اقوال ہیں: (الف) زیادہ تر لوگوں کا قول ہے کہ اس سے مراد ”عدل“ ہے۔ (۲) اس سے مراد ترازو ہے۔ (یعنی تولنے والی شے)۔ (۳) اس سے مراد قرآن ہے۔ ۵۲

راقم سطور نے اوپر جو تشریح کی ہے وہ پہلے قول کے مطابق ہے، یعنی تمام موجودات عالم اپنے طبعی نظاموں کے ذریعہ ”عدل“ کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مگر میں نے جو مفہوم بیان کیا ہے وہ وسیع تر معنی پر دلالت کرتا ہے۔ جب کہ قدیم مفسرین کا مفہوم ذرا محدود ہے۔ چنانچہ قدیم مفسرین میں سے حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں عدل قائم کر کے اس پر چلنے کا حکم دیا ہے۔

ای وضع فی الارض العدل الذی امر به. ۵۳

اور علامہ بیضاویؒ نے اس مفہوم کی تشریح اس طرح کی ہے کہ میزان سے مراد ”عدل“ ہے، جس کو اس نے بر ذی استعداد اور برحق دار کو اس کا حق بافراط عطا کیا، جس کے باعث اس عالم کا معاملہ منظم اور درست ہو گیا۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”عدل ہی کے ذریعہ ارض و سماوات قائم ہیں۔“

(ووضع العیزان) العدل، بان وافر علی کل مستعد مستحقہ، ولفی کل ذی حق حقہ، حتی انتظم امر المعالم واستقام، کما قال علیہ السلام ”بالعدل قامت السماوات والارض“. ۵۴

رسول اکرم ﷺ کی یہ تشریح وسیع مفہوم پر دلالت کر رہی ہے اور اس میں زمین و آسمان میں موجود تمام مظاہر آ سکتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے یہ قرآنی لفظ میزان کی صحیح تفسیر ہے۔

۳۔ اور اس سلسلے میں تیسری حقیقت یہ ہے کہ تمام مظاہر فطرت کو حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی

اس میزان سے تجاوز نہ کرے۔ یعنی خلاق عالم نے جس چیز کے لئے جو ضابطہ مقرر کر دیا ہے اس سے وہ تجاوز نہ کرے۔ چنانچہ زجاج سے منقول ہے کہ یہاں پر ”الاتظفوا“ کے معنی ”لا تجاوز العدل“ کے ہیں ۵۵، یعنی عدل الہی سے آگے نہ بڑھو۔

اور علامہ ابن کثیر نے (الاتظفوا فی المیزان) کی تفسیر میں تحریر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارض و سماوات کو حقانیت اور عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے، تاکہ تمام اشیاء حقانیت اور عدل کے ساتھ قائم رہیں۔ اى خلق السموات والارض بالحق والعدل، لتكون الاشياء كلها بالحق والعدل. ۵۶

چنانچہ آپ اس عالم رنگ و بو کی کسی بھی چیز کا طبیعی (فزیکل) کیمیائی (کیمیکل)، حیاتیاتی (بیالوجیکل)، عضویاتی (آرگنیکل)، تشریحی (اناٹومیکل) اور فعلیاتی (فزیا لوجیکل) وغیرہ کسی بھی نقطہ نظر سے جائزہ لیجئے، ہر چیز ایک نظام اور قانون کی پابند نظر آئے گی، جس سے وہ تجاوز نہیں کر رہی ہے۔ بالفاظ دیگر اشیائے عالم میں بے قاعدگی، انتشار یا لا قانونیت نہیں ہے۔ مظاہر کائنات کے یہ نفیس ترین اور بے دریغ قواعد و ضوابط ایک زبردست قوت والی اور کرشمہ ساز ہستی کے وجود کی خبر دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے باضابطہ اور حکیمانہ قوانین ایک ضابطہ ساز ہستی کے وجود کے بغیر خود بخود یا آپ سے آپ ظاہر نہیں ہو سکتے۔ اس اعتبار سے وجود باری کا عقیدہ کسی تاریک دور کی بات یا کوئی خرافاتی چیز نہیں بلکہ علمی اور سائنٹفک نقطہ نظر سے ایک روشن ترین حقیقت ہے۔ اور اس حقیقت عظمیٰ کا انکار ایک غیر سائنٹفک بات بلکہ ”تاریک خیالی“ کی علامت ہے۔

طبیعی و شرعی میزان

اوپر جو کچھ کہا گیا وہ طبیعیاتی نقطہ نظر سے ان آیات کریمہ کی شرح و تفسیر تھی۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ: اور تم وزن کو انصاف کے ساتھ قائم کرو، اور میزان میں کمی و بیشی نہ کرو۔ (رحمن: ۹)

ان آیات کا حاصل یہ ہے چونکہ پوری کائنات نقاشِ فطرت کے بنائے ہوئے ضابطوں کے مطابق چل رہی ہے اس لئے نوعِ انسانی کو چاہئے کہ وہ بھی اپنے اس رب مہربان کے شرعی و اخلاقی ضوابط کو قبول کر کے مظاہر کائنات کی ہمساز و دمساز بن جائے اور ان کے شر میں اپنا سر ملا کر بارگاہِ الہی میں سر بسجود ہو جائے، تاکہ پوری کائنات میں طبعی و شرعی دونوں لحاظ سے یکسانیت پیدا ہو جائے۔ اس کے نتیجے میں طبعی و شرعی دونوں ”میزانیں“ مل کر ایک عظیم الشان میزان بن جائے گی۔ چنانچہ انبیائے کرام کی سیرتیں ”شرعی میزان“ کا مکمل نمونہ ہوتی ہیں اس لئے ان کی سیرتوں کو ایک آئیڈیل قرار دے کر ان کی اتباع کرنے کی تاکید اس طرح کی گئی ہے:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ: ہم نے اپنے رسولوں کو یقیناً کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتار دی ہے، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں۔ (حدید: ۲۵)

بہر حال سورۃ رحمان کی مذکورہ بالا آیات کے بعد پوری سورت میں نوعِ انسانی کو ”دعوتِ ربوبیت“ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احسانات بتائے گئے ہیں، جو بہکے ہوئے انسانوں کو راہِ راست پر لانے کا ایک عقلی اور پیار بھرا طریقہ ہے۔ اور اس میں آخرت میں دئے جانے والے انعامات کا تذکرہ بھی ہے۔ اس اعتبار سے اس میں ”ترغیب“ کا پہلو غالب ہے۔

میزانِ صغریٰ و میزانِ کبریٰ

حاصل بحث یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں دو قسم کی میزانیں نازل کی ہیں: ایک میزانِ کبریٰ اور دوسری میزانِ صغریٰ۔ اور ان دونوں میں مطابقت پیدا کرنے کی غرض سے نوعِ انسانی کو دعوت دی ہے کہ وہ میزانِ صغریٰ (انبیائے کرام کی سنت) کی پیروی کرتے ہوئے میزانِ کبریٰ سے اپنے آپ

کو ہم آہنگ کر لیں، جس کے نتیجے میں انسان کی عاقبت درست ہو جائے گی اور وہ قیامت کے دن عذاب الہی سے بچ جائے گا۔ ورنہ اپنے رب سے بغاوت اور سرتابی کے باعث اس کا انجام بُرا ہوگا۔ یہ ہے اسلام کی عقلی اور سائنٹفک دعوت، جو مدلل اور حکیمانہ و ناصحانہ انداز میں مذکور ہے۔ اس اعتبار سے اسلام کی دعوت اور اس کی تعلیمات دور وحشت کی یادگار نہیں بلکہ موجودہ علمی و عقلی دور کی ایک ضرورت ہے۔ اور اس حقیقت افزو دعوت کا انکار انتہائی بد نصیبی کی علامت ہے۔ لہذا انسان کو چاہئے کہ وہ ضد و بہت دھرمی کار راستہ ترک کر کے اس غیبی آواز پر کان دھرے اور اپنی عاقبت کی فکر کرے۔

قرآن اور کائنات کی مطابقت

اوپر سورہ شوریٰ کی حسب ذیل آیت پیش کی گئی تھی:

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ:

اللہ وہی ہے جس نے کتاب اور میزان دونوں کو حقانیت (حکمت و مطابقت) کے ساتھ اتارا ہے۔ اور تجھے کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی ہو۔ (شوریٰ: ۷۱)

اس موقع پر ”حق“ کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اس کائنات اور کتاب الہی کے ساتھ مطابقت پر دلالت کر رہا ہے۔ چنانچہ امام راعب نے تحریر کیا ہے کہ لفظ ”حق“ کے اصل معنی ”مطابقت“ کے ہیں۔ (اصل الحق المطابقة والموافقة)۔ اور اس کا استعمال چار طرح سے ہوتا ہے، جن میں سے ایک صورت یہ کہ کوئی ایجاد کردہ چیز حکمت کی منتفضی ہو۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کے فعل کو تماشق کہا جاتا ہے۔ ۷۵

اس اعتبار سے مقصود یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ قرآن اور کائنات دونوں کو حکمت اور ایک دوسرے کی مطابقت کے طور پر نازل کیا ہے۔ اور اس کے بعد قیامت کے قریب ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں کے تقابل سے نہ صرف وقوع قیامت بلکہ اس کے قریب ہونے کے دلائل بھی مسخ ہو کر سامنے آجاتے ہیں، جن میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں رہتا۔ یہی وہ راز خدائی ہے جس کی بنا

پر ان دونوں کو ایک دوسرے کا مصدق و مؤید بنایا گیا ہے۔

اصول دین کا اثبات

خلاصہ یہ کہ قرآن اور کائنات کی مطابقت سے تمام اصول دین (دینی عقائد) کا اثبات یقین اور حق یقین کے طور پر ہو جاتا ہے۔ لہذا قرآن عظیم کو اصول دین کے اثبات کی غرض سے نظام کائنات کے مطابق بنایا گیا ہے، نہ کہ اسے اکتشافات جدیدہ کا ”خبرنامہ“ بنا دینا، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال خام ہے۔

بہر حال ان مباحث سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ مطالعہ کائنات کے باعث خدا کا وجود بھی ثابت ہوتا ہے اور یوم آخرت کا اثبات بھی۔ اور اس کے ساتھ ہی کتاب الہی اور رسالت کی حقانیت اور دیگر تمام عقائد کا بھی اثبات ہوتا ہے۔ اور یہ سب کچھ علمی و عقلی اور سائنٹفک دلائل کی روشنی میں واضح ہوتا ہے، جن کے ملاحظے کے بعد اصول دین کی حقانیت میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہ جاتا۔ بلکہ ان دلائل کے ملاحظے سے ایمان میں ”پختگی“ پیدا ہوتی ہے اور یقین کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، جو کہ اصل مقصود ہے۔ اسی لئے ارشاد باری ہے:

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ: اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حقانیت (حکمت و مطابقت) کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ان مظاہر میں اہل ایمان کے لئے ایک بڑی نشانی موجود ہے۔ (عنکبوت: ۴۴)

قرآن اور کائنات کے اسرار سر بستہ

قرآن حکیم ایک حیثیت سے نہایت درجہ آسان ہے، جس سے ہر عالم اور عامی بخوبی استفادہ کر سکتا ہے۔ مگر دوسری حیثیت سے وہ انتہائی مشکل اور غامض بھی ہے، جس سے صرف انھیں الخواص ہی مستفید ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ تمام علمی حقائق کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اور یہ حقائق قرآن

سورج کی موت اور قیامت

کے ”سطحی مطالعے“ سے واضح نہیں ہو سکتے۔ بلکہ اس کے لئے علوم و فنون کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرنی پڑتی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ: یہ مبارک کتاب ہم نے آپ کے پاس (اس لئے) بھیجی ہے، تاکہ (اہل علم) اس کی آیات میں غور کریں اور چنتہ عقل والے (اس کے انوکھے مضامین کے ملاحظے سے) متنبہ ہو سکیں۔ (ص: ۲۹)

اور حسب ذیل آیات کے ملاحظے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں کے تمام رازوں سے بخوبی آگاہ ہے، جو مظاہر کائنات کے نظاموں میں پوشیدہ ہیں۔ اور یہ راز ہائے فطرت قرآن اور کائنات کی مطابقت سے دو اور دو چار کی طرح بغیر کسی تاویل کے سامنے آتے ہیں۔ اسی بنا پر قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ مظاہر کائنات اور ان کے نظاموں میں غور و خوض کر کے خداوند قدوس کے ان تخلیقی رازوں کو منظر عام پر لا کر نوع انسانی کی ہدایت و رہنمائی کا فریضہ انجام دینے کی دعوت دی گئی ہے۔

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ: کہہ دو کہ اس قرآن کو اس نے اتارا ہے جو زمین اور اجرام سماوی کے (تمام) بھیدوں کو جانتا ہے۔ (فرقان: ۶)

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ: آسمان اور زمین میں ایسی کوئی پوشیدہ چیز (راز سر بستہ) نہیں ہے جو (اس) کتاب روشن میں نہ ہو۔ (نمل: ۷۵)

أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ: کیا اللہ کائنات کے سینے میں موجود (بھیدوں) کا جاننے والا نہیں ہے؟ (حکمت: ۱۰)

أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ: کیا یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہوں گے جو زمین اور آسمانوں میں موجود پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے؟ (نمل: ۲۵)

دیکھئے ان چاروں آیتوں میں ایک ہی حقیقت مختلف پیرایوں میں بیان کی گئی ہے، اور الفاظ بھی بدل بدل کر لائے گئے ہیں۔ چنانچہ ”سر“ ”غائبہ“ اور ”خباء“ تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں۔ پہلی

سورج کی موت اور قیامت

آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمانوں یا کائنات میں موجود تمام اسرار سربستہ کا جاننے والا ہے۔ دوسری آیت میں خبر دی گئی ہے کہ یہ تمام راز ہائے سربستہ کتاب حکمت میں موجود ہیں۔ ان دونوں آیتوں کو ملانے سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ نظام فطرت کے تمام رازوں سے باخبر ہے، اس لئے اس نے ان بھیدوں کو اپنی کتاب میں درج کر دیا ہے۔ چنانچہ تیسری آیت کے مطابق جو سوالیہ انداز میں ہے، نوع انسانی سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کائناتی بھیدوں سے ناواقف ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ بات اسی وقت درست ہو سکتی ہے جب کہ قرآن اور تحقیقات جدیدہ کی مطابقت ظاہر ہو جائے۔ ورنہ یہ مفہوم بے معنی بن کر رہ جائے گا۔ چنانچہ اس آیت کے مطابق کائناتی حقائق کے ظہور کے بعد ہی چوتھی آیت کی صداقت ظاہر ہو سکتی ہے، ورنہ یہ مفہوم صادق نہ آسکے گا۔ ظاہر ہے کہ قرآن عظیم ایک حکیمانہ کلام ہے اور اس کی تمام آیات ایک دوسرے کی شرح و تفسیر کرنے والی ہیں، ورنہ وہ ایک معممہ اور چیستان بن کر رہ جائے گا۔ اسی وجہ سے اس کلام حکمت میں غور و خوض کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ غرض ان آیات میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ابدی منصوبے کی رو سے اس کائنات میں موجود تخلیقی رازوں کو وقتاً فوقتاً ظاہر کرتا رہے گا، تاکہ نوع انسانی کو اپنے وجود کی خبر دیتے ہوئے اسے اس بات پر آمادہ کر سکے کہ وہ اسے ایک خدائے برتر تسلیم کر کے اپنی عاقبت درست کر لے۔ یہ ہے قرآن اور کائنات کی مطابقت کا اصل الاصول اور مقصد القاصد جو عند اللہ مطلوب ہے۔ لہذا اس سلسلے میں قرآن اور کائنات یا قرآن اور سائنس کے بارے میں دینی طلبوں کے درمیان جو غلط فہمیاں موجود ہیں وہ دور ہو جانی چاہئیں۔ کیونکہ یہ پوری کائنات خداوند عزوجل کی پیدا کی ہوئی ہے، اور قرآن عظیم بھی اسی کا نازل کردہ ہے، لہذا ان دونوں میں تعارض و تضاد کس طرح ہو سکتا ہے؟ اسی طرح جو لوگ قرآن عظیم کو کلام الہی ماننے کے بجائے اسے ایک گھڑا ہوا صحیفہ قرار دیتے ہیں ان کی غلط فہمی بھی دور ہو جانی چاہئے۔ کیونکہ یہ کلام برتر ایسے گہرے حقائق و معارف پر مشتمل ہے، جن کی صداقت و سچائی کی گواہی جدید سائنس اور اس کی تحقیقات دے رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب منصوبہ بندی ہے۔ تاکہ خود انسانی تحقیقات کے ذریعہ عصر جدید پر اللہ تعالیٰ کی حجت پوری ہو جائے۔ تاکہ جسے مرنا ہو وہ دلیل دیکھ کر مر جائے۔

غرض قرآن عظیم ہر اعتبار سے حقائق و معارف سے بھرپور ایک لاثانی صحیفہ حکمت ہے، جو عصر جدید میں اپنا علمی اعجاز دکھا رہا ہے اور اس کی تجلیوں سے علم و حکمت کے تاریک گوشے منور ہو رہے ہیں اور نئے نئے جہانوں کی سیر ہو رہی ہے۔ یہ عظیم صحیفہ سارے جہاں کے لئے تذکیر و تنبیہ بن کر سوائے ہوئے انسانوں کو جگا رہا ہے اور اپنے ابدی حقائق کے جلوے دکھا کر پوری نوع انسانی کو متنبہ کر رہا ہے۔ چنانچہ اس کا ایک ایک لفظ علم و حکمت سے بھرپور اور حقائق و معارف سے لبریز ہے، جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ حسب ذیل آیات کریمہ مذکورہ بالا تمام دعوؤں کے عین مطابق ہیں:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا: بڑا ہی بابرکت ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فرقان (حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب) نازل کی، تاکہ وہ سارے جہاں کو متنبہ کر سکے۔ (فرقان: ۱)

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. وَتَعْلَمُونَ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ: یہ قرآن سارے جہاں کے لئے ایک تذکرہ ہے۔ اور تم کچھ عرصے کے بعد اس کی (سچائی) کی خبر ضرور جان لو گے۔ (ص: ۸۷-۸۸)

چنانچہ قرآن اور کائنات کے یہ پوشیدہ اسرار و معارف آج مسلسل دلگاتار ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جن سے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔

حدیث بھی نشان رسالت

اس موقع پر ایک فلسفیانہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریگزار عرب کے ایک ”اہمی“ شخص کو ان عظیم ترین علمی حقائق تک رسائی کس طرح ہوئی، جن کے اکتشافات پر دنیا کے قابل ترین سائنس دانوں کو اپنی عمریں کھپانی اور صدیاں لگانی پڑیں؟ کیونکہ سورج کے بارے میں یہ تمام اکتشافات بیسویں صدی میں ظہور پذیر ہو سکے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی بھی جواب اس عظیم ترین حقیقت کو تسلیم کئے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا کہ پیمبر آخراں حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے سچے نبی تھے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ تقریباً ڈیڑھ ہزار سال پہلے ایک امی شخص تو کجا ”اہل علم“ کی ایک پوری ٹیم مل کر بھی

سورج کی موت اور قیامت

اس قسم کی صحیح پیش گوئی ہرگز نہیں کر سکتی تھی، جس کی حقیقت موجودہ دور میں ظاہر ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی دوسری کوئی بھی مثال ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ اس قسم کے حقائق کا ظہور ڈیڑھ ہزار سال تو بہت دور کی بات ہے، پچھلی صدی تک میں بھی اس بات کا کوئی تصور تک کسی کے ذہن و خیال میں نہیں آ سکا تھا کہ سورج ایک نہ ایک دن اپنی ”فطری موت“ مر جائے گا۔ اس اعتبار سے قرآن تو قرآن خود حدیث نبوی بھی ”نشان رسالت“ کی حیثیت رکھتی ہے، جس پر عصر جدید کے بعض لوگ ”بے اعتباری“ ظاہر کرتے ہیں۔ اگر اس موضوع پر تحقیقی نقطہ نظر سے کام کر کے ذخیرہ حدیث میں جو حقائق مختلف علوم و فنون کے بارے میں مذکور ہیں انہیں منظر عام پر لایا جائے تو علمی دنیا حدیث نبوی کے اعجاز کا بھی اسی طرح نظارہ کرے گی، جس طرح آج قرآن عظیم کے علمی اعجاز کا نظارہ ہو رہا ہے۔ لہذا علماء کی ایک ٹیم کو اس کار عظیم میں جٹ جانا چاہئے۔ یہ وقت کی پکار ہے۔

اس موقع پر یہ حقیقت بھی ملاحظہ ہو کہ قرآن اور حدیث میں جو تفصیلات اس سلسلے میں مرقوم ہیں ان دونوں میں کوئی تعارض یا تصادم بالکل نہیں ہے۔ جو اس بات کا ایک اور ناقابل تردید ثبوت ہے کہ یہ دونوں ایک ہی سرچشمے سے صادر شدہ ہیں۔ ورنہ ان دونوں میں اس قدر زبردست مطابقت ہرگز نہ پائی جاتی۔ اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ دونوں مصادر ایک دوسرے کی شرح و تفصیل بھی کر رہے ہیں۔ ان حقائق کے ملاحظے سے ان دونوں کا اعجاز یکساں طور پر ثابت ہوتا ہے اور یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ پیغمبر امی ﷺ اللہ کے سچے اور برگزیدہ نبی تھے۔ اور آپ نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا وہ وحی الہی کی بنیاد ہی پر تھا۔ لہذا حدیث نبوی کا یہ اعجاز موجودہ دور کے لئے ”نشان نبوت“ قرار پاتا ہے۔ چنانچہ خود ایک حدیث میں وحی الہی کے اس اعجاز پر اس طرح روشنی ڈالی گئی ہے:

ما من الانبياء من لبي الا قد اوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. وإنما

كان الذي اوتيت وحيا اوحى الله إلي. ۵۸

ہر نبی کو کوئی ایسا معجزہ دیا گیا تھا، جس پر لوگ ایمان لائے۔ مگر مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ اللہ

سورج کی موت اور قیامت

کی وحی ہے جو مجھے عنایت کی گئی ہے۔

چنانچہ آج قرآن کے ساتھ ساتھ خود حدیث نبوی کا معجزہ ہونا عقلی و سائنٹفک نقطہ نظر سے اس طرح ثابت ہو رہا ہے کہ لوگوں کو ان دونوں کے وحی ہونے میں کسی بھی قسم کا شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک زندہ معجزہ ہے اور اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ اپنی نفسانی خواہش کے مطابق کچھ نہیں کہتا۔ بلکہ وہ تو وحی ہے جو اس پر آتی ہے۔ (نجم: ۳-۴)

الغرض ان دونوں مصادر کی صدق و سچائی کے ملاحظے سے یہ حقیقت بھی بخوبی ثابت ہو جاتی ہے کہ ”علم“ صرف وہی نہیں ہے جو محسوسات و مقولات کے ذریعہ حاصل ہوتا ہو، جیسا کہ مادہ پرستوں کا ادعا ہے، بلکہ علم وہ بھی ہے جو ”وحی الہی“ کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی ایک حیثیت سے ”علم محسوسات“ میں غلطی کا امکان رہتا ہے، جب کہ وحی الہی یا علم الہی میں اس کا امکان نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ چودہ سو سال پہلے لسان نبوت سے جو کچھ صادر ہوا تھا وہ آج پتھر کی ایک لکیر کی طرح اپنی جگہ اٹل ہے، جب کہ نظام فطرت سے متعلق قدیم افکار و فلسفوں کی دنیا ہی بدل گئی ہے۔ اور اس حقیقت عظمیٰ کو وہی جھٹلا سکتا ہے جو معاند ہو اور کسی بھی علمی حقیقت کو ماننے کے لئے تیار نہ ہو۔

آج وحی الہی اور علم الہی کی صداقت و حقانیت کا ایمان افروز نظارہ رات کے اندھیرے میں نہیں بلکہ دن کے ”اجالے“ میں ہو رہا ہے۔ اور جدید سائنس اپنی تمام تحقیقات اور اپنے لاؤ لشرک سمیت اسلامی عقائد و تعلیمات کی لگاتار اور جہم تصدیق و تائید کیا کر رہی ہے گویا کہ اسلامی عقائد و تعلیمات کو ”سلام“ کر رہی ہے۔ اسلام کی صدق و سچائی کا اس سے بڑا عقلی ثبوت اور کیا چاہئے؟

فَهَلْ مِنْ مُدْبِرٍ؟

مراجع و حواشی

(۱) المفردات فی غریب القرآن، راغب اصفہانی، مطبوعہ بیروت۔

(۲) معجم الفاظ القرآن، الکریم، ۶۲۲/۱، المصحف المصریہ، ۱۹۷۰ء۔

(۳) دیکھئے آکسفورڈ الشریٹڈ انسائیکلو پیڈیا، ۵۳/۸، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نیویارک، ۱۹۹۳ء۔

Helium (۴)

(۵) اسی بنا پر قرآن حکیم میں سورج کو چراغ (سراج) سے تشبیہ دی گئی ہے۔

White Dwarf (۶)

The Birth and Death of the Sun. (۷)

Gamow, George, The Birth and the Death of the Sun, The New (۸)

American Librery, New Youk, 1956, P.140.

(۹) یعنی جس طرح ایک شعلہ بجھنے سے پہلے بھڑک اٹھتا ہے، اسی طرح سورج بھی ٹھنڈا ہونے سے پہلے

پھیل کر ایک دیوہیکل ”سرخ شعلے“ کی صورت اختیار کر لے گا۔

Encyclopaedia Britannica, 1983, Vol. 17, P.808. (۱۰)

-Nova، واحد Nova (۱۱)

Oxford Illustrated Encyclopaedia, Vol. 8, The Universe, New (۱۲)

York, 1993, P.110.

Gamow, George, The Birth and the Death of the Sun, P.159. (۱۳)

Milky Way (۱۴)

Big Bang Theory (۱۵)

(۱۶) جامع ترمذی، کتاب تفسیر القرآن ۳۳۳/۵، مطبوعہ بیروت، مستدرک حاکم ۵۷۶/۴، مطبوعہ بیروت،

نیز بقول امام سیوطی اس حدیث کو امام احمد اور ابن منذر نے بھی روایت کیا ہے، دیکھئے تفسیر

سورج کی موت اور قیامت

درمنثور: ۸/۴۲۶، مطبوعہ دارالفکر بیروت، ۱۹۹۳ء۔

(۱۷) دیکھئے مستدرک حاکم ۳/۵۷۶-۵۷۷، مطبوعہ بیروت۔

(۱۸) طبرانی، منقول از کنز العمال: ۱/۱۷۹، مؤسسة الرسالة، بیروت، ۱۹۸۹ء۔

(۱۹) ابن عساکر، منقول از کنز العمال: ۱/۱۹۷۔

(۲۰) الاتقان فی علوم القرآن، از جلال الدین سیوطی ۲/۱۶۰، مصر، ۱۹۷۸ء۔

(۲۱) ایضاً، نیز ملاحظہ ہو کنز العمال ۱/۱۹۵، مؤسسة الرسالة، بیروت، ۱۹۸۹ء۔

(۲۲) جامع البیان فی تفسیر القرآن (تفسیر ابن جریر) طبری، ۳۰/۴۱، دارالمعرفة بیروت، ۱۹۸۰ء۔

(۲۳) صحیح بخاری، باب صفۃ الشمس والقمر، ۲/۷۵، مطبوعہ استانبول، ۱۹۸۱ء۔

(۲۴) تفسیر القرآن العظیم (تفسیر ابن کثیر) ۳/۴۷۵، مطبوعہ قاہرہ، تفسیر الدر المنثور ۸/۴۲۶۔ دارالفکر

بیروت، ۱۹۹۳ء۔

(۲۵) تفسیر کبیر: ۳۱/۶۷، دارالفکر بیروت، ۱۹۹۲ء، نیز ملاحظہ ہو تفسیر کشاف ۳/۲۲۱، مطبوعہ تہران، تفسیر

بیضاوی ۵/۴۵۶، بیروت، ۱۹۹۶ء۔

(۲۶) دیکھئے لسان العرب ۵/۱۵۶، دارصادر بیروت، تاج العروس من جواهر القاموس، ۷/۴۶۱، طبع

جدید دارالفکر بیروت، ۱۹۹۴ء۔

(۲۷) صحیح بخاری، ۲/۷۵۔

(۲۸) مسند ابوداؤد طیالسی، ص ۲۸۱، دارالمعرفة بیروت، نیز دیکھئے جامع الاحادیث، علامہ جلال الدین

سیوطی، ۲/۲۳۷، دارالفکر بیروت، ۱۴۱۴ھ۔

(۲۹) ابن مردودہ، منقول از کنز العمال، ۶/۱۵۳، مطبوعہ مؤسسة الرسالة بیروت۔

(۳۰) فیض القدر شرح جامع صغیر، ۲/۱۷۷، المكتبة التجارية مکة المكرمة۔

(۳۱) ملاحظہ ہو: النہایۃ فی غریب الحدیث، ابن اثیر، ۳/۲۷۱، المكتبة الاسلامیۃ۔

(۳۲) جیسا کہ ارشاد باری ہے: کل یجوی لاجل مسمی ہر ایک مقررہ وقت تک دوڑتا رہے گا۔ اور دوسری

سورج کی موت اور قیامت

جگہ ارشاد ہے: کل فی فلک یسبحون: ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ (انبیاء: ۲۳)۔

(۳۳) دیکھئے النہایۃ فی غریب الحدیث، ۲/۳۵۵۔

(۳۴) دیکھئے فتح الباری، حافظ ابن حجر، ۶/۳۰۰، مطبوعہ دارالافتاء ریاض۔

(۳۵) ایضاً۔

(۳۶) سنن دارمی، ۱/۵۰، دار الفکر بیروت، ۱۳۱۴ھ۔

(۳۷) پراسرار کائنات، از جیمز جنیس، ص ۳۸، مطبوعہ کراچی۔ اس سلسلے میں مزید تفصیل کے لئے دیکھئے

راقم سطور کی کتاب ”قرآن اور نظام فطرت“ مطبوعہ فرقانیہ اکیڈمی بنگلور۔

(۳۸) صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابہ، ۴/۱۹۶۱، مطبوعہ دارالافتاء ریاض۔

(۳۹) بخاری کتاب الکسوف، ۲/۲۳، مطبوعہ استنبول، مسلم کتاب الکسوف، ۲/۶۱۸۔

(۴۰) دیکھئے جارج گیمو کی کتاب ”وی برتھ اینڈ ڈیٹھ آف وی سن، ص ۱۵۹۔

(۴۱) بخاری کتاب الکسوف، ۲/۲۳۔

(۴۲) ایضاً، ص ۲۳-۲۵۔

(۴۳) بخاری، ۲/۲۶۔

(۴۴) بخاری، ۲/۲۵، مسلم، ۲/۶۱۹۔

(۴۵) النہایۃ فی غریب الحدیث، ابن اثیر، ۳/۳۳۳، المکتبۃ الاسلامیۃ۔

(۴۶) Red Giant

(۴۷) White Dwarf

(۴۸) دیکھئے تفسیر ابن جریر، ۲۷/۶۹، دار المعرفۃ بیروت، تفسیر درمنثور، جلال الدین سیوطی، ۷/۶۹۲، دار الفکر

بیروت، ۱۳۱۴ھ، زاد المسیر فی علم النفسیر، ابن جوزی، ۸/۱۰۷، المکتبۃ الاسلامیۃ دمشق، ۱۳۸۷ھ۔

(۴۹) تفسیر کشاف، ۳/۳۳، انتشارات آفتاب تہران۔

(۵۰) تفسیر ابن جریر، ۲۷/۶۹۔

سورج کی موت اور قیامت

- (۵۱) تفسیر قرطبی، ۱۵۳/۲۷۔
- (۵۲) زاد المسیر فی علم التفسیر، ابن جوزی، ۱۰۷/۸۔
- (۵۳) تفسیر قرطبی، ۱۵۳/۲۷۔
- (۵۴) تفسیر بیضاوی، ۲۷۳/۵، نیز ملاحظہ ہو تفسیر ابوالسعود، ۱۷۷/۸، دار احیاء التراث العربی بیروت۔
- (۵۵) دیکھئے زاد المسیر فی علم التفسیر (تفسیر ابن الجوزی) ۱۰۷/۸۔
- (۵۶) تفسیر ابن کثیر، ۲۷۰/۲، مکتبہ دار التراث قاہرہ۔
- (۵۷) دیکھئے المفردات فی غریب القرآن، ص ۱۲۴۔
- (۵۸) صحیح مسلم، ۱/۱۳۴، مطبوعہ ریاض، نیز ملاحظہ ہو مسند احمد، ۳۳۱/۲، بیروت۔

آسمان کیا ہے؟

بعض قرآنی حقائق تحقیقات جدیدہ کی روشنی میں

قرآن حکیم میں لفظ ”سما“ اور ”سماوات“ کا تذکرہ جملہ ۳۱۰ جگہوں پر آیا ہے۔ مگر ہر جگہ ان کا مفہوم یکساں نہیں ہے۔ بلکہ سما سے مراد کہیں پر ایک ”محسوس شے“ ہے تو کہیں اس سے مراد ”مطلق بلندی“ بھی ہے۔ کہیں پر اس سے مراد ”عالم ملکوت“ ہے تو کہیں پر ”بادل“ کو بھی سما کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس کا اطلاق کہیں پر ”آسمانی مادہ“ پر ہے تو کہیں پر پورے ”عالم شہود“ پر ہے۔ اسی طرح ”سماوات“ کا اطلاق کہیں پر ”سات آسمانوں“ پر کیا گیا ہے تو کہیں پر اس سے مراد ”اجرام سماوی“ ہیں، جو ہر انسان کے مشاہدہ میں آسکتے ہیں۔ اور ان اجرام میں ہمارا چاند اور سورج بھی داخل ہے۔ ان تمام کی تشریح و تفصیل کے لئے ایک مستقل تصنیف کی ضرورت ہے۔

اصل میں قرآن عظیم کا نزول چونکہ علوم و فنون سے نا آشنا قوموں کے درمیان ہوا تھا اس لئے ان تمام امور کو حد درجہ ”مبہم انداز“ میں بیان کیا گیا ہے۔ تاکہ دور قدیم میں ان کی تفہیم کے تعلق سے کوئی پیچیدگی یا کوئی نیا مسئلہ پیدا نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ دور قدیم میں اگر ہر چیز کا بیان صاف صاف انداز میں کر دیا جاتا تو اس صورت میں ایک نیا مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا کہ لوگ کہہ دیتے کہ قرآن تو ایسی باتیں بیان کر رہا ہے جو ”ناقابل فہم“ ہیں۔ اور ان کا مطلب اہل ایمان کو سمجھانا مشکل ہو جاتا۔ لہذا ایسے

سورج کی موت اور قیامت

تمام ”کائناتی حقائق“ کا تذکرہ اس کتاب حکمت میں مبہم انداز میں کیا گیا ہے۔ مگر الفاظ اتنے واضح اور معنی خیز ہیں کہ ان کا مفہوم تحقیقات جدیدہ کی روشنی میں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ان الفاظ (سما و سماوات) کا مفہوم کس جگہ کیا ہے؟ اور اس میں کسی قسم کی تاویل کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ بلکہ یہ الفاظ اپنے سیاق و سباق کے لحاظ سے ہر جگہ بالکل وضاحت کے ساتھ اپنے مدلول پر دلالت کرتے ہیں۔ بہر حال اس سلسلے میں ایک قاعدہ کلیہ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ لفظ ”سما“ کا اصل مفہوم ہے ”ہر وہ چیز جو ہمارے سروں کے اوپر ہو اور سایہ نکلن ہو“:

کل ما علاک فاظلمک فہو سما۔۱

اس سلسلے میں علامہ ابن منظور نے بھی لسان العرب میں تصریح کی ہے کہ ہر وہ چیز جو بلند ہو اور اوپر ہو اور اسی طرح ہر چھت کو بھی سما کہا جاتا ہے۔ اور گھر کی چھت کو بھی سما کہا گیا ہے۔

وقال الزجاج: السماء فی اللغة یقال لکل ما ارتفع وعلا قد سما یسمو،

وکل سقف فہو سما۔ ومنہ قیل لسقف البیت سما۔۲

اسی ابہام سے فائدہ اٹھا کر ان الفاظ کا استعمال اس کلام حکمت میں انتہائی بلیغ طور پر اس طرح کیا گیا ہے کہ ان کے مفہوم میں قدیم دور والوں کو بھی کوئی اشتباہ نہ رہے اور وقت آنے پر ان کا صحیح مفہوم بھی واضح ہو جائے۔ چنانچہ دیکھئے ایک مقام پر ”آسمان“ کا صحیح مفہوم کس طرح واضح کیا گیا ہے:

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ: اور ہم نے آسمان کو (اپنی زبردست) قوت

کے ذریعہ بنایا ہے اور ہم اس میں وسعت دے جا رہے ہیں۔ (ذاریات: ۴۷)

کائنات کا آغاز و انجام

اس موقع پر ایک سوال یہ ہے کہ یہ وسعت کس چیز میں ہے؟ تو اس سلسلے میں روایتی اعتبار سے پانچ اقوال مذکور ہیں جن میں سے ایک جدید نظریات کے عین مطابق ہے۔ چنانچہ علامہ ابن جوزی (م ۵۹۷ھ) اپنی تفسیر میں ابن زید کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد آسمان میں وسعت دینا ہے۔

(القول) الفانی: لموسعون السماء، قاله ابن زید. ۳

چنانچہ آج فلکیاتی نقطہ نظر سے ہماری کائنات (اپنی وسیع کہکشاؤں سمیت) کے آغاز و انجام کے بارے میں جو مقبول ترین نظریہ ہے وہ ”نظریہ عظیم دھماکہ“ (بگ بینگ تھیوری) کہلاتا ہے، جس کی رو سے ہماری پوری کائنات ابتداءً گیس کے ایک گولے کی شکل میں تھی، جس میں ایک عظیم دھماکہ ہوا اور اس مادہ کے اجزاء بکھر کر کہکشاؤں اور ستاروں کے روپ میں ظاہر ہو گئے۔ اور کہکشاؤں کی یہ کائنات مسلسل پھیلتی جا رہی ہے۔ کیونکہ دور بینی مشاہدہ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کہکشاؤں کا فاصلہ باہم بڑھتا جا رہا ہے اور وہ ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ پھر جب وہ پھیلتے پھیلتے اپنی آخری حد تک پہنچ جائیں گی اور مزید پھیلاؤ کے لئے گنجائش باقی نہیں رہے گی تو اس وقت سکڑنے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اور پھر تمام کہکشاؤں (اپنے کھربوں کھربوں ستاروں سمیت) سکڑتے سکڑتے پھر اسی نقطہ تک پہنچ جائیں گی جہاں سے ان کا آغاز ہوا تھا۔ نتیجہ یہ کہ پھر ایک زبردست اور خوفناک قسم کا دھماکہ ہوگا جس کے نتیجہ میں یہ پوری کائنات ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اور اس کے بعد یہ عمل اسی طرح برابر جاری رہے گا۔ اور یہ نظریہ پہلی بار ۱۹۲۷ء میں قائم کیا گیا تھا۔ ۳

چنانچہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ ابتدائی دھماکہ تقریباً ۱۵ ارب سال پہلے واقع ہوا تھا۔

Big Bang theory, the most generally accepted in cosmology which states that the universe began in primordial explosion about 15 billion years age. ۵

واضح رہے اگرچہ یہ ایک نظریہ ہے جس کی ابھی تک پوری طرح تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ لیکن اگر کوئی نظریہ قرآنی نصوص (واضح بیانات) سے بغیر کسی تاویل کے پوری طرح ہم آہنگ ہو جائے تو اسے رد کرنے کی بھی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ اگر بالفرض یہ نظریہ بدل بھی جائے تو قرآن کا وہ مفہوم جو منصوص طور پر ثابت ہے وہ کسی بھی طرح بدل نہیں سکے گا۔ بلکہ اس کی جگہ کوئی اور اچھا سا مفہوم جو اس کی صداقت کو واضح کرنے والا ہو نکل آئے گا۔ جیسا کہ خود سابقہ مفسرین کے بیان کئے ہوئے بہت سے معانی و مطالب جدید اکتشافات کے تحت بدلتے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے قرآن عظیم کی قطعیت پر کوئی

سورج کی موت اور قیامت

حرف نہیں آتا۔ اگر میں ان سب کی مثالیں دینا شروع کر دوں تو اس سے ایک ضخیم کتاب وجود میں آ سکتی ہے۔ لہذا قرآن حکیم کی نئی تفسیر کرنے کے سلسلے میں آج کل جو شبہ پیدا کیا جاتا ہے وہ بے بنیاد ہے۔ اور اس موضوع پر راقم سطور نے مفصل بحث اپنی ایک دوسری کتاب میں کی ہے۔

آسمان اور جدید سائنس

اس بحث سے بخوبی واضح ہو گیا کہ قرآن کی نظر میں سماء سے مراد (اپنے اصل مفہوم کے اعتبار سے) یہ پورا سلسلہ وجود ہے اور بقیہ چھ مساوات اس کے علاوہ ہیں جو ہماری آنکھوں سے مستور ہیں۔ اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

بہر حال قرآن حکیم کی نظر میں جہاں کہیں بھی ”آسمان“ کے پھٹنے اور اس کے شق ہونے کا بیان ہے تو اس سے مراد یہی پورا ”عالم شہود“ ہے، جس میں تمام اجرام سماوی اور جملہ کہکشاںیں بھی شامل ہیں۔ اور اس توجیہ و تفسیر سے جدید حلقوں کی اس بے اعتباری کا ماحول بھی ختم ہو سکتا ہے جو قرآنی نظریہ مساوات کے سلسلے میں آج پیدا ہو گیا ہے۔ چنانچہ جدید سائنس کا نظریہ یہ ہے کہ ”آسمان“ کوئی چیز نہیں ہے۔ کیونکہ ہماری آنکھوں کو دکھائی دینے والی ”نیلی چادر“ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بلکہ خلاؤں میں یہ ”آسمان“ سیاہ نظر آتا ہے۔ جیسا کہ خلا بازوں نے اس سلسلے میں مشاہدہ کیا ہے۔ نیز مشاہدہ سے یہ بھی بخوبی ظاہر ہو گیا ہے کہ زمین سے نظر آنے والی یہ نیلی چیز اور خلاؤں سے دکھائی دینے والی سیاہ چیز کوئی ٹھوس شے نہیں، بلکہ حد نظر کا محض ایک منظر ہے۔ لہذا ایک مشاہداتی چیز کا انکار دین کی نظر میں جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے سائنس دانوں اور سائنس کو صحیح ماننے والوں کی نظر میں دین غیر معتبر قرار پا سکتا ہے، جیسا کہ اس سلسلے میں امام غزالیؒ نے تحریر کیا ہے: ”وہ ثابت شدہ حقائق جو اصول دین سے متصادم نہ ہوں ان میں جھگڑا کرنا جائز نہیں ہے“۔ اور قرآن عظیم نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ آسمان کا رنگ ”نیلا“ ہے یا ہماری آنکھوں کو نظر آنے والی نیلی چادر ہی آسمان ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن حکیم حد درجہ حکیمانہ کلام ہے جس میں اس قسم کی کوئی بات مذکور نہیں جسے جدید سے جدید تراکشافات چیلنج کر سکیں۔

آسمان کیا ہے؟

واقعہ یہ ہے کہ قرآن عظیم کی تصریح کے مطابق ایک ”ٹھوس آسمان“ کا وجود ضرور ہے جسے وہ ”سقف محفوظ“ قرار دیتا ہے۔ اور دنیائے سائنس کی ابھی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکی ہے۔ اور اس کی حقیقت اس پر تب کھلے گی جب ہماری ”پھیلتی ہوئی“ کائنات چاروں طرف سے بند اس چھت سے ٹکرا کر اپنے ”مرکز“ کی طرف لوٹنا شروع ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں پھر ایک عظیم دھماکہ ہوگا۔ جیسا کہ خود سائنس دانوں کا نظریہ ہے۔ اور اس چھت کے پرے بقیہ چھ مساوات واقع ہیں، جن کی حقیقت سے انسان واقف نہیں ہے۔ بہر حال اس سلسلے میں ارشاد باری ہے جو ”نص قطعی“ کی حیثیت رکھتا ہے۔

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْفًا مَّحْفُوظًا، وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ : اور ہم نے آسمان کو

ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے۔ (مگر) یہ لوگ اُس کی نشانیوں سے اعراض کر رہے ہیں۔ (انبیاء: ۳۲)

کائنات کا ڈراپ سین

ظاہر ہے کہ پھیلتی ہوئی کائنات کا دوبارہ اپنے مرکز کی طرف واپس آنا کسی ٹھوس چیز سے ٹکرانے ہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ لہذا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری یہ پوری مشہود کائنات کسی عظیم ترین ”گنبد“ میں بند ہے، جہاں تک سائنس کی رسائی نہیں ہو سکی ہے۔

اس بحث سے بخوبی ظاہر ہو گیا کہ قرآن عظیم کی نظر میں آسمان یا سماء کا مفہوم کیا ہے۔ لہذا اب ملاحظہ فرمائیے قرآن کی وہ آیات جن میں سماء یا پوری کائنات کے پھٹنے کا تذکرہ موجود ہے، جو اختتام کائنات سے عبارت ہے۔

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ : جب آسمان پھٹ جائے گا۔

اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے۔ (الانفطار: ۱-۲)

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ : جب آسمان شق ہو جائے گا۔ (الانشقاق: ۱)

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ :

جب صور یکبارگی پھونکا جائے گا۔ اور زمین اور پہاڑ ایک ہی ہتھی میں پھونکے کر دیئے جائیں گے۔ اُس دن برپا ہونے والی چیز (قیامت) برپا ہو جائے گی۔ اور آسمان پھٹ جائے گا، جو اُس دن بالکل بودا ہوگا۔ (حاقہ: ۱۳-۱۶)

فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسْفَتْ. وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْبَتْ. لَا يَأْتِي نِوْمٌ أُجِلَّتْ. لِيَوْمِ الْفَضْلِ.

جب ستارے مٹائے جائیں گے۔ جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا۔ پہاڑ اُڑائے جائیں گے۔ اور تمام رسولوں کو وقت مقررہ پر جمع کیا جائے گا۔ یہ تاخیر کس دن کے لئے کی گئی؟ فیصلے کے دن کے لئے۔ (مرسلات: ۸-۱۳)

السَّمَاءُ مُنْفِطِرٌ بِهِ، كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا: (اس دن) آسمان پھٹ جائے گا۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ (مزل: ۱۸)

ان آیات میں آسمان کے لئے انفطار، انشقاق اور فرج کے الفاظ لائے گئے ہیں جو ہم معنی ہیں، یعنی پھٹنا۔ اور چونکہ آسمان ستاروں اور سیاروں سے عبارت ہے اس لئے آسمان کے پھٹنے کا مطلب ہے تمام ستارے اور سیارے پھٹ کر بکھر جائیں گے۔ اس لحاظ سے اوپر مذکور سورہ انفطار کی پہلی آیت میں آسمان کے پھٹنے کا جو تذکرہ ہے اس کی مزید وضاحت بعد والی آیت (وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انشُت) کر رہی ہے۔ یعنی آسمان کے پھٹنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ تمام ستارے جھڑپڑیں گے یا بکھر جائیں گے۔ اور یہ ستارے کس طرح جھڑپڑیں گے؟ تو اس حقیقت پر سورہ بکویر کی پہلی آیت روشنی ڈال رہی ہے کہ وہ ہمارے سورج کی طرح یا تو بے نور ہو جائیں گے یا پھر اچانک دھماکوں سے پھٹ پڑیں گے، جس کی تفصیل پچھلے مضمون میں بیان کی جا چکی ہے۔ یہ اور اس اعتبار سے یہ تمام آیتیں ایک ہی مفہوم پر دلالت کر رہی ہیں۔ اور ان میں کوئی معنوی تضاد نہیں ہے واللہ اعلم۔

آسمان کے دروازے

اس موقع پر یہ حقیقت بھی ملحوظ رہنی چاہئے کہ قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی آسمان کے پھٹنے اور اُس کے بکھر کر منتشر ہونے کا ذکر آیا ہے وہاں پر صرف لفظ سماء (واحد) آیا ہے، مساوات (جمع) کا لفظ نہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ختم ہونے والا آسمان صرف ہمارا ہی آسمان ہے اور بقیہ چھ آسمان بالکل محفوظ رہیں گے۔ یہ بھی اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ ان آیات میں آسمان سے مراد صرف عالم شہود یا آسمان اول ہے، اور بقیہ چھ آسمان اس کے علاوہ ہیں جو ہماری نظروں سے مستور ہیں۔ اور قرآن عظیم یہ بھی انکشاف کرتا ہے کہ قیامت کے دن آسمان اول کے دروازے کھول دئے جائیں گے، جو ایک ”مضبوط چھت“ یا گنبد کی شکل میں ہے:

إِنَّ يَوْمَ الْمَفْضَلِ كَانَ مِيقَاتًا. يَوْمَ يَنْفُخُ لِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ الْفَوَاجِا. وَتُنْتَحِبِ

السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا.

فیصلہ کا دن یقیناً متعین ہے۔ جس دن کہ صور پھونکا جائے گا تو تم سب گروہوں کی شکل میں (ہمارے رو برد) حاضر ہو جاؤ گے۔ اور آسمان کھول دیا جائے گا تو (اس میں) دروازے نکل آئیں گے۔ (نبا: ۱۷-۱۹)

اور اس کا مزید ثبوت وہ حدیثیں ہیں جو واقعہ معراج سے تعلق رکھتی ہیں۔ چنانچہ اس واقعہ میں صراحتاً مذکور ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام جب رسول اکرم ﷺ کو لے کر آسمان کی سیر کے لئے روانہ ہوئے تو سب سے پہلے آسمان اول تک پہنچے اور اس کے متعدد دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلوا دیا، جیسا کہ صحیح بخاری میں مذکور ہے:

ثم عرج به إلى السماء الدنيا، فضرب بابا من ابوابها. فناداه اهل السماء

من هذا؟ فقال جبرئيل. قالوا ومن معك؟ قال معي محمد....

پھر جبرئیل حضرت محمد ﷺ کو لے کر ”نزدیکی آسمان“ تک پہنچے اور اُس کے (متعدد)

سورج کی موت اور قیامت

دروازوں سے ایک دروازہ کھٹکھٹایا تو آسمان والوں نے پکار کر پوچھا کہ کون ہے؟ تو کہا جبرئیل۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد۔ ﷺ

بخاری ہی کی ایک دوسری روایت میں اس طرح مذکور ہے:

فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبرئيل لخازن السماء الفتح: جب میں آسمان دنیا تک پہنچا تو جبرئیل نے آسمان کے خازن سے کہا کہ (دروازہ) کھولو۔ ۹
قرآن اور حدیث کے اس متفقہ بیان کے بعد اس بارے میں کسی قسم کا شبہ نہیں رہ جاتا کہ آسمان کا وجود اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، جس کی نقاب کشائی کرنا سائنس کی ذمہ داری ہے۔

بُرُوجُ يَاقَا كَتَاتِي جِزَارَ

اس اعتبار سے یہ آسمانی چھت دُور بینوں سے نظر آنے والی کہکشاؤں (کیلکسیس) سے پرے ہونی چاہئے۔ بالفاظ دیگر دُور بینوں سے نظر آنے والی تمام کہکشاؤں ”سمائے دنیا“ یا قرسی آسمان کے اندر واقع ہیں۔ اور اس کا مزید ثبوت حسب ذیل آیات میں مذکور لفظ ”بُرُوجُ“ ہے جس سے مراد مشہور بارہ آسمانی بُرجوں کے علاوہ کہکشاؤں (ستاروں کے مجموعے) بھی ہو سکتے ہیں:

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ: یقیناً ہم نے آسمان میں (بہت سے) بُرج بنادئے ہیں اور انہیں بغور دیکھنے والوں کے لئے مزین کر دیا ہے۔ (حجر: ۱۶)

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ: (ہاں ہاں) یہ بُرجوں والا آسمان بھی شاہد ہے۔ (بُرُوجِ: ۱)
تفسیروں میں بُرُوجِ کے کئی معانی مذکور ہیں۔ صاحب تفسیر کبیر نے لکھا ہے کہ اس سلسلے میں تین اقوال ہیں: (۱) اس سے مراد آسمان کے مشہور بارہ بُرج ہیں، جن میں سورج داخل ہوتا ہے۔ (۲) اس سے مراد چاند کی منزلیں ہیں۔ (۳) اس سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں۔ ۱۰

ابن جریر طبری (م ۳۱۰ھ) نے لکھا ہے کہ اہل علم کا اس کی تاویل میں اختلاف ہے۔ چنانچہ

حضرت ابن عباسؓ کے نزدیک اس سے مراد قصور (محل) ہیں جو آسمان میں واقع ہیں:

قال ابن عباس قصور في السماء.

بعض کے نزدیک اس سے مراد ستارے ہیں۔ اور بعض نے اس کی تاویل اس طرح کی

ہے: والسماء ذات البروج سے مراد والسماء ذات النجوم ہے۔ ال

اس اعتبار سے بروج کے معنی میں کافی وسعت پائی جاتی ہے۔ اور ان سب اقوال کا حاصل

ایک ہی ہے۔ کیونکہ جس طرح مشہور بارہ برج ستاروں کے مجموعے ہیں اسی طرح کہکشاؤں بھی

ستاروں کے مجموعوں ہی کا نام ہے۔ فرق یہ ہے کہ بارہ برجوں میں صرف چند ستارے ہوتے ہیں۔ جب

کہ کہکشاؤں لا تعداد (اور ایک موٹے اندازہ کے مطابق ایک کہکشاؤں میں کم از کم ایک کھرب)

ستارے ہوتے ہیں۔ چنانچہ سائنسی نقطہ نظر سے اس کی تعریف اور وضاحت اس طرح کی گئی ہے:

کہکشاؤں (گیلیکسی) سے مراد ستاروں (نجی) گرد اور گیس کا مجموعہ ہے، جس کا کل وزن ہمارے سورج

کے مقابلے میں دس لاکھ سے لے کر سو کھرب تک ہے۔ ڈوڈھیلا راستہ (ملکی دے) ہماری اپنی کہکشاؤں

ہے۔ اور سورج اس کہکشاؤں میں موجود ایک کھرب ستاروں کے مقابلے میں صرف ایک ستارہ ہے۔ تاہم

۱۹۲۰ء کے دہے تک کہکشاؤں کی صحیح ساخت کے بارے میں جانکاری نہیں تھی، جب کہ شدید جدوجہد

کے بعد ان کے طبیعی احوال معلوم کر لئے گئے۔ چنانچہ ماؤنٹ ولس میں نصب شدہ سوانچ قطر والی عکسی

دور بین (ریفلیکٹر) اس مقصد کے لئے استعمال کی گئی۔ اس کے نتیجے میں ”انڈرومیڈا“ کہکشاؤں میں

واقع انفرادی ستاروں کا تصور حاصل ہوا۔

Galaxy, an association of stars, dust and gas, with a total mass ranging from 10^6 to 10^{13} times the mass of the sun. The Milky Way is our own galaxy, and the Sun is only one star of the 100 billion stars in it. The true character of galaxies was not discovered until the 1920s when the very intense debate concerning their nature was finally resolved. Telescopes prior to this period showed them as diffuse areas of light, resembling nebulae, but the 100-inch (2.5 m) reflector at the Mount Wilson Observatory, first used in the 1920s, gave

سورج کی موت اور قیامت

images of some individual stars in the Andromeda Galaxy showing it to be a galaxy rather than a nebula. ۱۲

واقعہ یہ ہے کہ اس صدی کی دوسری چوتھائی کے دوران ماہرین فلکیات بتدریج اس حقیقت سے واقف ہوئے کہ بہت سے ماند اور مدہم ”سحابیے“ (نیبولاس) جو ہمارے آسمان کو آباد کئے ہوئے ہیں، وہ حقیقتاً ستاروں کے عظیم جزیرے ہیں جو ہماری کہکشاں سے پرے واقع ہیں۔ ایک مثالی اور بڑی کہکشاں، جیسے ہماری چکروار کہکشاں، ایک کھرب ستاروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اور ہماری کائنات میں دور بینوں سے دکھائی دینے والی اربوں کہکشائیں موجود ہیں۔ اور یہ تمام کہکشائیں قرآن عظیم کی صراحت کے مطابق ”وزیناھا للناظرین“ کی شکل میں ”جمال ربوبیت کا“ نظارہ فراہم کرتی ہیں۔ اور اس اعتبار سے یہ ”آسمانی بروج“ وہ ”کائناتی جزیرے“ ہیں جن پر حضرت ابن عباس کا قول ”قصور السماء“ کے الفاظ ٹھیک ٹھیک صادق آتے ہیں۔

اس بحث سے بخوبی ظاہر ہو گیا کہ یہ پوری کائنات قرآنی نقطہ نظر سے چاروں طرف سے ایک ”ٹھوس“ چیز سے گھری ہوئی ہے، جسے بعض مواقع پر ”بناء“ اور بعض مواقع پر ”سقف محفوظ“ کہا گیا ہے۔

آسمانی دنیا کی محیر العقول وسعت

الغرض ہمارے آسمان (سمائے دنیا) کی وسعت اس قدر زیادہ ہے کہ اس سلسلے کے محیر العقول اعداد و شمار سے سرچکرا نے لگتا ہے۔ ہماری اس مشہود کائنات کے بعض اجرام اس قدر بعید فاصلے پر واقع ہیں کہ ان کی روشنی ان کے وجود کے بعد سے لے کر اب تک ہماری زمین تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ حالانکہ روشنی ایک سکند میں ۱۸۶۰۰۰ میل کا فاصلہ طے کرتی ہے اور ہماری کائنات کو وجود میں آئے ہوئے تقریباً دس ارب سال گزر چکے ہیں۔ جس کہکشاں میں ہمارا سورج واقع ہے اس میں کم از کم ایک کھرب ستارے موجود ہیں۔ اور اس کہکشاں کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کا فاصلہ ایک لاکھ نوری سال ہے۔ جب کہ بعض کہکشاؤں کا قطر چند ہزار نوری سال سے لے کر نصف بلین (پانچ

آسمان کیا ہے؟

لاکھ (نوری سال تک ہے۔

Galaxies range in diameter from a few thousand to half a million light-years. ۱۳

روشنی ایک سال میں ۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ کیلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ کہکشاؤں اپنی جسامت اور شکل و صورت میں مختلف ہوتی ہیں۔ بعض کہکشاؤں چکر دار اور بعض بیضوی شکل کی ہوتی ہیں۔ اور یہ مختلف شکل و صورت کی کہکشاؤں متحدہ گروپوں میں منقسم ہیں۔ ہماری کہکشاؤں (ملکی وے) جس گروپ میں ہے اس میں بیس کہکشاؤں موجود ہیں اور ان کا قطر تین ملین (تیس لاکھ) نوری سال ہے۔ اس مجموعے میں ”انڈرومیڈا“ کہکشاؤں بیس لاکھ نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے۔

Our own galaxy is a member of the "local group" an association of about 20 galaxies, only one of which is the Andromeda galaxy. The local group is about three million light-years away. ۱۴

ہماری کہکشاؤں کے مجموعے سے قریب ترین کہکشاؤں کا بڑا مجموعہ ”ورگو“ ہے، جو تیس ملین (تین کروڑ) نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے۔

The nearest large cluster of galaxies is in Virgo, about 30 million light-years distant. ۱۵

ماہرین فلکیات کے اندازے کے مطابق کہکشاؤں کے یہ مجموعے یا گروپ مل کر ”سوپر گروپس“ کی تشکیل کرتے ہیں (یعنی بہت سے مجموعے مل کر ایک گروپ بن جاتے ہیں) جن میں تقریباً ایک سو مجموعے ہوتے ہیں، جو ایک سو ملین (دس کروڑ) نوری سال کے فاصلے میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔

Some astronomers have argued that there is evidence that clusters are grouped into super clusters of perhaps 100 members, spread over 100 million light-years. ۱۶

ہماری معلوم شدہ کائنات میں اس طرح کے لاکھوں کروڑوں مجموعے ہیں، جن میں اربوں کہکشاؤں پائی جاتی ہیں۔ اور ہماری بعید ترین کہکشاؤں کا فاصلہ ہماری زمین سے اربوں نوری سال

کے فاصلے پر ہے۔ چنانچہ مختلف دریافت شدہ کہکشاؤں کی شناخت کے لئے انہیں خصوصی نمبر دئے گئے ہیں۔ مثلاً انڈرومیڈا میں واقع ”بڑے سماہیہ“ (گریٹ نیبولا) کو M31 کا نمبر دیا گیا ہے۔ اور ان نمبروں کے ذریعہ ان کا محل وقوع معلوم کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ کہکشاں M33 ہماری زمین سے بیس لاکھ نوری سال کے فاصلے پر ہے۔

”ہیکسکی“ نامی مجموعہ کہکشاں سے روشنی ہماری طرف پانچ ارب سال پہلے آنی شروع ہوئی تھی۔ اس لئے ہم یقین کر سکتے ہیں کہ بعض کہکشاں اس سے زیادہ قدیم ہوں گی۔ ایک اندازہ کے مطابق ہماری اور دیگر کہکشاں دس ارب سال سے زیادہ قدیم نہیں ہیں۔ (حوالہ مذکور)

بہر حال فلکیات کی دنیا میں بیسویں صدی کی سب سے زیادہ دلچسپ اور رعب دار دریافت ہماری کائنات میں اربوں کہکشاؤں کا وجود ہے، جو منظم طور پر ایک دوسرے سے پیچھے ہٹ رہی ہیں۔

Perhaps the most startling discovery made in astronomy this century is that the universe is populated by billions of galaxies and that they are systematically receding from one another. ۱۱

اور یہ اندازہ ”نظریہ عظیم دھماکہ“ (بگ بینگ تھیوری) کے مطابق ہے۔ چنانچہ اس نظریہ کی زد سے جب ہماری اس معلوم کائنات کا پورا مادہ باہم ملا ہوا تھا تو اس میں ایک عظیم دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں تمام کہکشاں اور ستارے و سیارے وجود میں آئے۔ اور یہ تمام ستارے اور ان کے مجموعے (کہکشاں) تب سے اب تک برابر پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ چنانچہ پچھلے صفحات میں پیش کردہ ایک قرآنی آیت (ذاریات: ۴۷) سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔

غرض کہکشاؤں کی دنیا بہت زیادہ دلچسپ اور بصیرت افروز ہے جو قدرت خداوندی کا ایک بے مثال مظہر اور اس کی عظمت و کبریائی کی دلیل ناطق ہے۔ اور اس کے نظارہ سے ہمارے ایمان و یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ سب کچھ حسب ذیل آیت کریمہ کے عین مطابق ہے:

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ.

اور ہم نے آسمان میں بہت سے نروج (ستاروں کے مجموعے) بنا دئے ہیں اور انہیں غور سے دیکھنے والوں کے لئے آراستہ کر دیا ہے۔ (حجر: ۱۶)

ماہرین فلکیات اب تک لاکھوں کہکشاؤں کی تصویریں دور بینوں کی مدد سے اتار چکے ہیں، جن میں سے بعض فلکیات کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ اور بعض تصویریں مذکورہ بالا کتاب ”نیو فرئیرس ان اسٹرائی“ میں بھی موجود ہیں۔ ہر کہکشاں کی اپنی ایک الگ پہچان ہے، جو ایک دوسرے سے مختلف و منفرد دکھائی دیتی ہے۔ ابتداء میں یہ کہکشاں ”روشن سحابیوں“ کی طرح دکھائی دیتی تھیں۔ مگر طاقتور دور بینوں کے ذریعہ دیکھنے پر معلوم ہوا کہ یہ سب ستاروں کے مجموعے ہیں، جن میں سے بعض ہمارے سورج سے بھی کئی گنا بڑے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ کہکشاں ”ستاروں کے شہر“ یا ”کائنات کے جزائر“ ہیں۔ ان میں بعض عجیب و غریب اجرام بھی موجود ہیں، جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔

ارہوں نوری سال کے فاصلے پر واقع ان کہکشاؤں کے ملاحظے سے ہماری کائنات کی حیرت انگیز وسعتوں کا پتہ چلتا ہے۔ اور اس فاصلے کو میلوں کے عدد میں ظاہر کرنا ناممکن ہے۔ اگر کوئی شخص ایک ایسے خلائی جہاز کے ذریعہ سفر کرنا شروع کر دے جو روشنی کی رفتار سے چلتا ہو تب بھی وہ پوری کائنات تو درکنار ایک کہکشاں سے دوسری تک نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ وہ راستے ہی میں بوڑھا ہو کر ختم ہو جائے گا۔

عرش کے مقابلے میں سات آسمانوں کی حیثیت

بہر حال قرآنی دلائل کے مطابق راقم سطور کی نظر میں ہماری یہ پوری کائنات آسمان اول کے اندر واقع ہے۔ اور بقیہ چھ آسمان اس کے علاوہ ہیں، جو ہماری آنکھوں سے مستور ہیں۔ اور مستقبل میں مزید چھٹی بھی کہکشاں دریافت کی جائیں گی وہ سب کی سب آسمان اول ہی کا حصہ ہوں گی۔ کیونکہ ”نظر آنے والی“ یا مشہود کائنات یعنی قرآنی ”سمائے دنیا“ میں واقع ہے۔ آسمان دنیا کے ملاحظے سے بقیہ چھ آسمانوں کی وسعت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ مگر یہ ساتوں آسمان اپنی حیرت انگیز وسعتوں کے باوجود عرش الہی کے مقابلے میں ایک رتی سی چیز کے مانند ہیں، جیسا کہ حسب ذیل حدیث سے واضح ہوتا ہے:

عن ابی ذر قال: قلت یا رسول اللہ ایما انزل علیک اعظم؟ قال آية الكرسي، ثم قال یا ابا ذر ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بارض فلاة، وفضل العرش علی الكرسي كفضل الفلاة علی الحلقة.

حضرت ابو ذرؓ سے مروی ہے کہ: میں نے پوچھا کہ یا رسول آپ پر سب سے عظیم (آیت) کونسی نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ آیت الکرسی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر ساتوں آسمان کرسی سمیت ایک حلقے (یا ایک رتی سی چیز) کی طرح ہیں جو ایک وسیع بیابان میں ڈال دیا گیا ہو۔ اور عرش کی فضیلت کرسی پر ایسی ہی ہے جیسے ایک وسیع بیابان میں ایک (چھوٹا سا) حلقہ۔ ۱۸۔
سات آسمانوں کے اوپر جنت ہے اور جنت کے اوپر عرش الہی ہے۔ چنانچہ جنت کی وسعت ہمارے آسمان جیسے سو آسمانوں کی وسعت کے برابر ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف کی ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے:

إن فی الجنة مائة درجة، أعدھا اللہ للمجاهدین فی سبیلہ. کل درجتین ما بینھما کما بین السماء والارض. فإذا سألتم اللہ فاسئلوه الفردوس. فإنه اوسط الجنة واعلی الجنة. وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفرج انھار الجنة.

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جنت میں سو درجے ہیں، جن کو اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لئے تیار کر رکھا ہے۔ ان میں سے ہر دو درجوں کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو۔ کیونکہ وہ جنت کا درمیانی اور اونچا مقام ہے۔ جنت الفردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ ۱۹۔

زمین اور آسمان اللہ کی مٹھی میں

ان مہیب اور حیرتناک اعداد و شمار کی رُو سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ پوری کائنات (ساتوں آسمانوں اور جنت سمیت) کس قدر وسیع و بے کراں ہوگی۔ یہ پوری کائنات عرش الہی کے

آسمان کیا ہے؟

مقابلے میں ایک حقیر سی چیز ہے جو اُس کی مٹھی میں سما جائے گی۔ چنانچہ باری تعالیٰ قیامت کے موقع پر اس پوری کائنات کو ایک ہاتھ میں اٹھالے گا، جیسا کہ اس سلسلے کی صحیح ترین حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے۔

عن ابن مسعود قال جاء حبر من الاحبار الى النبي ﷺ فقال يا محمد انا نجد ان الله يجعل السماوات على اصبع، والارضين على اصبع، والشجر على اصبع، والماء والشري على اصبع، وسائر الخلق على اصبع. فيقول انا الملك. فضحك النبي ﷺ حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر. ثم فرار رسول الله ﷺ وما قدر الله حق قدره.

ابن مسعود سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ یہودیوں کا ایک عالم رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور کہا کہ اے محمد ہم (اپنی کتابوں میں) لکھا ہوا پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ (قیامت کے موقع پر) آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھ لے گا، اسی طرح زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی کو ایک انگلی پر اور باقی تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ لے گا اور کہے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ تو نبی کریم ﷺ یہودی عالم کی تصدیق کے طور پر ہنس پڑے حتیٰ کہ آپ کے دانت دکھائی دینے لگے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، جس کا مفہوم یہ ہے: اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اُس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اور یہ پوری زمین قیامت کے دن اُس کی مٹھی میں ہوگی۔ اور آسمان اُس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ مشرکوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ (زمع: ۶۷)

اس سلسلے کی ایک دوسری حدیث ہے:

يقبض الله الارض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول انا الملك، اين

ملوك الارض.

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ (قیامت کے موقع پر) اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے قبضے میں لے لے

گا اور آسمان کو لپیٹ کر اپنے داہنے ہاتھ میں کر لے گا۔ پھر کہے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں، زمین کے

بادشاہ کہاں ہیں؟

سورج کی موت اور قیامت

ایک اور روایت کے مطابق وہ فرمائے گا کہ میں ہی (حقیقی) بادشاہ ہوں، کہاں ہیں (دنیا کے) جبار اور متکبر لوگ؟ ۲۲

اس بحث کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

۱- ہماری معلوم و مشہور کائنات سمائے دنیا یا آسمان اول میں داخل ہے، جو ”سقف محفوظ“ کے اندر واقع ہے۔ اور اس سقف محفوظ تک سائنس کی ابھی تک رسائی نہیں ہو سکی ہے۔

۲- بقیہ چھ آسمان اس کے علاوہ ہیں، جو ہماری آنکھوں سے مستور ہیں۔

۳- ہماری یہ زمین اور ساتوں آسمان ”کرسی“ کے مقابلے میں بے وقعت ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ساتوں آسمانوں کی ”پوری کائنات“ کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ)

۴- ساتوں آسمانوں کی پوری کائنات کرسی سمیت عرش الہی کے مقابلے میں ایک وسیع بیابان میں ایک رتی سی چیز کے مانند ہے۔

۵- قیامت کے موقع پر ساتوں آسمان (ہربوں کھربوں کہکشاؤں اور لاکھوں گنت ستاروں اور سیاروں سمیت) اور ان میں موجود تمام مخلوقات خدائے ذوالجلال کے دانے ہاتھ میں (ایک چھوٹی سی گیند کے مانند) ہوں گے۔ ۲۳ اس سے خدائے جبار و قہار کی عظمت و بزرگی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

۶- اس بحث کا خاص الخاص نکتہ یہ ہے کہ خالق ارض و سماوات کا وجود حقیقی و واقعی ہے، نہ کہ قدیم متکلمین کے نظریہ کے مطابق محض ”بیسیط“ یا وہمی، جنہوں نے یونانی فلسفے سے متاثر ہو کر بے کار اور لاطائل بحثیں چھیڑ دی تھیں۔

۷- اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے الگ (بائن) ہے اور وہ عرش پر براجمان ہو کر سارے جہاں پر حکمرانی کر رہا ہے۔

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ،

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْآفَرُّ، تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

تمہارا رب یقیناً اللہ ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن (چھ مدارج) میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ وہ رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے جو اُس کے پیچھے تیزی سے آ جاتی ہے۔ اور سورج، چاند اور ستارے (سب کے سب) اُس کے حکم کے تابع ہیں۔ جان لو کہ (تمام مخلوقات کو) پیدا کرنا اور اُن پر حکم چلانا اُسی کا کام ہے۔ اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ (اعراف: ۵۴)

ایک اشکال اور اس کا جواب

اوپر راقم سطور نے سائے دنیا یا آسمان اول کی جو تفسیر و توجیہ کی ہے اس پر بعض آیات کی رو سے ایک اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ ساتوں آسمان مشہور اور اوپر تلے (ایک کے اوپر ایک) موجود ہیں، جیسا کہ سورہ نوح کی آیت سے بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے:

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا
وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا.

کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ اللہ نے سات آسمان ایک کے اوپر ایک کس طرح پیدا کئے ہیں اور ان میں چاند کو روشن اور سورج کو چراغ بنا دیا ہے۔ (نوح: ۱۶-۱۷)

یہاں پر لفظ ”الم ترؤا“ کا اطلاق دو معنوں پر ہو سکتا ہے: (۱) اگر اس کے معنی مشاہدہ کے لئے جائیں تو اس صورت میں اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساتوں آسمان جو ”اوپر تلے ہیں“ وہ انسانوں کے مشاہدے میں ہیں۔ (۲) اور اگر اس کے معنی ”علم“ کے لئے جائیں تو اس صورت میں ان کا مشاہدہ میں آنا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ اوپر راقم سطور نے سات آسمانوں کی جو تاویل کی ہے وہ اس نقطہ نظر سے صحیح ہو جائے گی۔

اس موقع پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سات آسمانوں کے لئے ایک ہی سورج اور ایک

ہی چاند کا تذکرہ کیوں کیا گیا ہے؟ حالانکہ خود ہمارے آسمان (آسمان اول) میں بے شمار کہکشاں ہیں اور بے شمار سورج موجود ہیں اور اسی حساب سے بے شمار چاند بھی موجود ہوں گے۔ تو اس کا جواب دو طرح سے ہے: ایک یہ کہ ہماری آنکھوں کو چونکہ (بغیر دوربین کے) ایک ہی چاند اور ایک ہی سورج نظر آتا ہے اس لئے ایسا کہا گیا۔ دوسرے یہ کہ اہل زمین کے لئے چونکہ ہمارے چاند اور سورج کی اہمیت زیادہ ہے اس لئے ایسا کہا گیا۔ چنانچہ ایک دوسری آیت میں بجائے سات آسمانوں کے صرف ایک آسمان کا تذکرہ کرنے کے بعد متعدد کہکشاؤں کی موجودگی کی خبر دی گئی ہے۔ پھر ان میں ہماری زمین والوں کی اہمیت کے نقطہ نظر سے ایک سورج اور ایک چاند کا ذکر آیا ہے:

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا.

بڑا ہی بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں (بہت سے) بُرُوج (ستاروں کے جھرمٹ) بنا

دئے اور اُس میں ایک چراغ (سورج) اور ایک چاند بنا دیا۔ (فرقان: ۶۱)

ظاہر ہے کہ پورے آسمان اور اس میں موجود تمام بُرُوج (کہکشاؤں) میں صرف ایک ہی سورج اور ایک ہی چاند ہونا خلاف واقعہ بات ہے۔ اس موقع پر یہ حقیقت بھی واضح رہے کہ دور قدیم میں یونانیوں کا آسمانوں کے بارے میں جو نظریہ تھا وہ حد درجہ مضحکہ خیز تھا۔ چنانچہ وہ ایسے سات "افلاک" کے قائل تھے جو پیاز کے چھلکوں کی طرح ایک کے اوپر ایک باہم ملے ہوئے تھے اور دن رات میں ایک چکر پورا کر لیا کرتے تھے۔ اور چاند سورج اور دیگر سیارے ان افلاک میں جڑے ہوئے خود بھی دن رات میں ایک چکر لگایا کرتے تھے۔

نو آسمانوں کا غلط نظریہ

موجودہ علم و تحقیق اور روایت و مشاہدہ کے دور میں اس قسم کے قدیم نظریات جو محض ظن و تخمین کا نتیجہ تھے خرافات معلوم ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر سات آسمانوں کے وجود کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر:

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ: پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اسے (حصے کر کے) سات آسمان بنا دئے۔ (بقرہ: ۲۹)

سات آسمانوں کے وجود پر یہ ایک ”نصن قطعی“ ہے، جس کی تائید دیگر آیات سے بھی ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کے بیانات میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ یہ خدائے عظیم و خیر کے علم ازلی پر مبنی کلام ہے، جس میں خلاف واقعہ بات کا گزر نہیں ہو سکتا۔ مگر دور قدیم میں یونانی نظریات سے متاثر ہو کر بعض مفسرین نے سات آسمانوں کے وجود میں شک کرتے ہوئے یونانی نظریات سے مطابقت پیدا کرنے کی غرض سے کہہ دیا کہ قرآن میں سات آسمانوں کے تذکرے سے اُن کے زیادہ ہونے کی نفی نہیں ہوتی۔ کیونکہ فلسفہ یونان میں نو آسمانوں (افلاک) کا وجود تسلیم کیا گیا ہے۔ چنانچہ امام رازیؒ جیسے نقاد فلسفہ نے اس سلسلے میں تذبذب کا اظہار اس طرح کر دیا ہے:

فبان قال قائل فهل يدل التنصيص على سبع سماوات على نفي العدد

الزائد؟ قلنا الحق ان تنصيص العدد بالذکر لا يدل على نفي الزائد. ۲۴

یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ کیا سات آسمانوں کا بیان عدد زائد کی نفی کرتا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ اس عدد (سات) کا تذکرہ زائد کی نفی نہیں کرتا۔

واضح رہے یونانی نظریات کے مطابق ہمارے نظام شمسی کے بعض سیاروں کو سب آفتاب کے سات آسمان (افلاک) قرار دے دیا گیا تھا، جس کی تفصیل اس طرح ہے: (۱) چاند (۲) عطارد (۳) زہرہ (۴) آفتاب (۵) مریخ (۶) مشتری (۷) اور زحل۔ ۲۵ ان سات افلاک کے علاوہ مزید دو افلاک کا وجود بھی مانا گیا تھا۔ چنانچہ آٹھویں فلک کو ”فلک البروج“ اور نویں کو فلک الافلاک کہا گیا ہے۔ اور یونانیوں کا نظریہ یہ تھا کہ تمام ستارے آٹھویں فلک میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور افلاک چونکہ ششے کی طرح شفاف ہیں اس لئے وہ سب ہم کو پہلے فلک میں جڑے ہوئے معلوم پڑتے ہیں۔ اور نو افلاک تمام افلاک و اجسام کو محیط ہے۔ اور اس کے باوراء کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ۲۶

بغیر علم و تحقیق کے ان ادعائی بیانات سے متاثر ہو کر امام رازیؒ کے بعد بعض دیگر مفسرین نے

سورج کی موت اور قیامت

بھی یونانی نظریات سے مطابقت پیدا کرنے کی غرض سے سات آسمانوں کے وجود میں شک و شبہ کا اظہار کرتے ہوئے عرش اور کرسی کو آٹھواں اور نواں آسمان قرار دے دیا۔ جیسا کہ اس سلسلے میں قاضی بیضاوی اور شہاب الدین آلوسی بغدادی کی روش سے ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ اول الذکر تحریر کرتے ہیں:

فإن قيل: اليس ان اصحاب الارصاد البنوا تسعة الافلاك؟ قلت فيما ذكره شكوك. وإن صح فليس في الآية نفى الزائد، مع انه ان ضم إليها العرش والكرسي لم يبق خلاف۔ ۲۷

یعنی اگر یہ کہا جائے کہ کیا فلکیات دانوں نے نو افلاک کا اثبات نہیں کیا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے اُس میں کافی شبہات ہیں لیکن اگر یہ بات صحیح بھی ہو تو اس آیت میں زائد کی نفی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ان افلاک کے ساتھ عرش اور کرسی کو بھی ملا لیا جائے تو کسی قسم کا اختلاف باقی نہیں رہے گا۔

اور حنفی الذکر نے امام رازی اور قاضی بیضاوی کے بیانات کو بنیاد بنا کر انہیں دونوں کے اقوال کو دہرایا ہے، جیسا کہ وہ تحریر کرتے ہیں: فليس في الآية ما يدل على نفى الزائد بناء على ما اختاره الامام من ان مفهوم العدد ليس بحجة، وكلام البيضاوي في تفسيره يشير إليه. ۲۸

فلسفہ یونان کا ابطال

حالانکہ ان نظریات و مفروضات پر کوئی عقلی یا شرعی دلیل موجود نہیں ہے۔ ۲۹ بلکہ یہ محض ادعائی بیانات و مزعومات تھے، جن کو جدید سائنس نے بالکل باطل قرار دے دیا ہے۔ اور دوسری طرف جدید سے جدید تحقیقات و اکتشافات کے باعث قرآن حکیم کے مبہم بیانات کی تصدیق و تائید پے در پے سامنے آ رہی ہے۔ تفصیل کے لئے تو ایک دفتر چاہئے مگر اس موقع پر بطور اختصار عرض ہے کہ:

(۱) جدید فلکیات کی زد سے ثابت ہو چکا ہے کہ یونانی نظریات کے مطابق ہماری کائنات سات سیاروں اور ”نو افلاک“ میں محدود نہیں بلکہ اربوں کہکشاؤں (ستاروں کے مجموعے) اور کھربوں

ستاروں (ہمارے سورج جیسے) کا مجموعہ ہے، اور یہ سب اجرام وسیع اور بے کراں خلاؤں میں تیرتے پھر رہے ہیں۔ اور یہ پوری کائنات اس قدر وسیع ہے کہ اس میں ہمارے نظام شمسی کی حیثیت کسی بہت بڑے ریگستان میں ایک ریت کے ذرہ جیسی ہے۔

(۲) تمام ستارے اور سیارے کسی فلک میں جڑے ہوئے نہیں بلکہ بے کراں خلاؤں میں بغیر کسی سہارے کے تیرتے پھر رہے ہیں۔ (كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبُحُونَ) اور ان میں ہمارا سورج بھی شامل ہے۔

(۳) یونانیوں کا نظریہ تھا کہ افلاک یا اجرام سماوی کا مادہ ہماری زمین کے مادے سے مختلف ہے، جو غلط ثابت ہو چکا ہے۔

(۴) یونانیوں کا نظریہ تھا کہ افلاک (اجرام سماوی) میں ”خرق والتیام“ محال ہے۔ یعنی ان کا مادہ نہ تو ٹوٹ سکتا ہے اور نہ ٹوٹنے کے بعد پھر دوبارہ جڑ سکتا ہے۔ چنانچہ پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے کہ قرآن اور سائنس دونوں اجرام سماوی کی ٹوٹ پھوٹ اور ان کے بکھراؤ پر متفق اللفظ ہیں۔ ہمارے سورج جیسے ستاروں میں ہائیڈروجن گیس پائی جاتی ہے جو مسلسل جل جل کر ہیلیم (ایک دوسرے عنصر) میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ چنانچہ ستاروں میں روشنی، چمک اور حرارت کی وجہ اسی کے جلنے کی بدولت ہے۔ اور ستارے بعض نامعلوم وجوہات کی بنا پر دھماکوں سے پھٹتے رہتے ہیں۔ اور اس قسم کے پھٹنے والے ستاروں کو ”حادثہ ستارے“ کہا جاتا ہے۔

(۵) یونانی فلکیات کے مطابق ساتوں افلاک تہہ جہہ پیاز کے چھلکوں کی طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب کہ حدیث شریف میں تصریح موجود ہے کہ ہر دو آسمانوں کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت پائی جاتی ہے، جس طرح کہ ہماری زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے:

ما بین کل السمائین کما بین السماء والارض، ۳۰

(۶) یونانیوں کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ اجرام سماوی متحرک بالارادہ ہیں اور ان میں عقل و شعور بھی

پایا جاتا ہے اور یہ بات جدید تحقیقات و نظریات کی رُو سے بالکل غلط اور مہمل ہے۔ بلکہ موجودہ نظریات کی رُو سے تمام اجرام سماوی باہمی جذب و کشش (گراویشن) کی بدولت فضاؤں اور خلاؤں میں تیر رہے ہیں۔

كُلُّ فِیْ فَلَكٍ یَّسْبُحُوْنَ: ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔

اِنَّ الْمَلٰٓئِکَةَ یُنسِبُکَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا: اللہ آسمانوں اور زمین کو تھامے

ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائیں۔ (فاطر: ۴۱)

(۷) یونانی نظریات کی رُو سے فلکیات اپنے پورے مواد اور شکل و صورت کے ساتھ ”قدیم“

ہیں۔ یعنی وہ مخلوق نہیں بلکہ ہمیشہ سے ہیں:

وذهب ارسطو ومن تبعه کالفارابی وابن سینا علی انها قدیمة بذواتها

وصفاتها. وقالوا..... (اما الفلکیات فالها قدیمة بموادها و صورتها الجسمیة

والنوعیة). ۳۱

(۸) جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا یونانی نظریات سے مرعوب ہو کر بعض مفسرین نے کرسی اور

عرش کو آٹھواں اور نواں فلک قرار دے دینے کی جرات کر دی۔ مگر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ افلاک جو

آنکھوں کو نظر نہیں آتے۔ بلکہ انہیں محض اذعائی طور پر فرض کر لیا گیا ہے، وہ کرسی اور عرش کس طرح

ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ حدیث نبوی کی تصریح کے مطابق ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں ایک رقی سی

چیز کی طرح اور اسی طرح ساتوں آسمان کرسی سمیت عرش کے مقابلے میں ایک ذرہ کے مانند ہیں۔ پھر کیا

باری تعالیٰ جو عرش پر مستوی ہے وہ بھی معاذ اللہ عرش سمیت ان افلاک کے ساتھ گھوم رہا ہے؟ ظاہر ہے

کہ یہ ایک مضحکہ خیز صورت حال ہے جو بالکل مہمل اور لاجینی ہے۔

آسمان اول کی بعض تفصیلات

غرض مذکورہ بالا حدیث سے دو حقیقتیں ثابت ہوتی ہیں: (۱) ہر دو آسمانوں کے درمیان پانچ

سوال کی مسافت کا فاصلہ موجود ہے:

ما بينهما مسيرة خمس مائة سنة.

مگر پانچ سو سال کی مسافت کس قسم کی رفتار سے ہوگی؟ اس کی صراحت نہیں کی گئی ہے۔ بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر بے انتہاء دوری ظاہر کرنا مقصود ہے، نہ کہ متعین طور پر پانچ سو سال کا فاصلہ قرار دینا۔ (۲) چنانچہ اس سلسلے میں دوسری جو حقیقت مذکور ہے وہ اس بے انتہاء فاصلے کے تعین کے سلسلے میں مزید وضاحت ہے۔ یعنی ہر دو آسمانوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ ہماری زمین اور آسمان کے درمیان پایا جاتا ہے:

ما بين كل سمانين كما بين السماء والارض.

اب سوال یہ ہے کہ ہماری زمین کا آسمان کہاں ہے؟ تو اس سلسلے میں قرآن حکیم میں جو اشارات مذکور ہیں ان کی رُو سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ دور بینوں سے نظر آنے والی کہکشاؤں سے پرے واقع ہو سکتا ہے۔ کیونکہ قرآن حکیم کی صراحت کی رُو سے جتنے بھی ستارے (نجوم و کواکب) اور کہکشاؤں (رُوج) ہم کو نظر آتے ہیں (خواہ وہ خالی آنکھ سے ہوں یا دور بینوں کے ذریعہ) وہ سب کے سب آسمان اول یا سماءِ دنیا میں داخل ہیں، جیسا کہ ارشاد باری ہے:

وَرَبُّنَا السَّمَاءُ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَحِفْظًا.

ہم نے قریبی آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا ہے (اور اسے ہر طرح سے) محفوظ کر دیا

ہے۔ (حم سجدہ: ۱۳)

اس موقع پر آسمان اول کو ”محفوظ کر دینے“ سے مقصود یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہ اس پار جاسکتا ہے اور نہ ہی اس پار جھانک کر دیکھ سکتا ہے۔ کیونکہ اس کی سرحد ایک ٹھوس چیز سے بند کر دی گئی ہے:

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرَضُونَ.

اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے۔ اور یہ لوگ اس کی نشانیوں سے رُوگردانی

کر رہے ہیں۔ (انبیاء: ۳۲)

سورج کی موت اور قیامت

نیز اس سلسلے میں مزید وضاحت اس طرح آئی ہے:

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ.

اور ہم نے قمری آسمان کو چرخوں سے مزین کر دیا ہے۔ (ملک: ۵)

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكُوَاكِبِ.

ہم نے قمری آسمان کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کر دیا ہے۔ (صافات: ۶)

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ: اور ہم نے آسمان (اول)

میں بہت سے برج (ستاروں کے مجموعے) بنائے ہیں، اور انہیں غور سے دیکھنے والوں کے لئے

آراستہ کر دیا ہے۔ (حجر: ۱۶)

دیکھئے ان تمام آیات میں ”سما“ واحد آیا ہے اور متعدد آیات میں اس کی صفت ”الدنيا“

آئی ہے، یعنی قمری یا پہلا آسمان۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ ہماری آنکھوں کو نظر آنے والے اجرام

یا مشہود کائنات آسمان اول میں واقع ہے اور بقیہ چھ آسمان ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ ہر دو

آسمانوں کے درمیان ایک ٹھوس چیز بطور پردہ موجود ہے جسے قرآن حکیم میں ”سقف محفوظ“ یعنی ایک

مضبوط چھت کہا گیا ہے۔ چنانچہ معراج نبوی کے سلسلے میں وارد حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر آسمان

میں دروازے موجود ہیں جن پر دربان متعین ہیں جو بغیر اجازت کسی کو اس پار جانے نہیں دیتے۔ غرض

ہماری مشہود کائنات ہی کے آسمان اول ہونے کا ایک اور ثبوت حسب ذیل آیت کریمہ بھی ہے، جس

کے مطابق قیامت کے موقع پر ستاروں اور کہکشاؤں سے بھر پورا اس کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی:

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ، كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ، وَغَدَا

عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ.

جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح کہ کھسے ہوئے اوراق کا پلندہ (لپیٹا

جاتا) ہے۔ جس طرح ہم نے تخلیق اول کی ابتداء کی تھی اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے۔ یہ ہمارے

ذمہ ایک وعدہ ہے اور ہم اسے پورا کر کے رہیں گے۔ (انبیاء: ۱۰۴)

آسمان کیا ہے؟

اس اعتبار سے حسب ذیل آیات میں آسمان کے پھٹنے سے مراد پوری آسمانی دنیا کا انتشار یا

تخریب کائنات مراد ہے:

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ . وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انشَرَّتْ .

جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ (انفطار: ۱-۲)

چنانچہ ان آیات کے مطابق آسمان کے پھٹنے کی کیفیت یہ ہوگی کہ تمام ستارے منتشر و پراگندہ

ہو جائیں گے، جو اختتام کائنات کا اعلان ہے۔

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ : جب آسمان شق ہو جائے گا۔ (انشقاق: ۱)

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَاثٌ وَرَدَةٌ كَالدَّهَانِ .

جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ گلابی تیل کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ (رحمان: ۳۷)

وَأَنشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ .

اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اُس دن (انتہائی) بودا ہوگا۔ (حاقہ: ۱۶)

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ : جب آسمان کا پوست اتارا جائے گا۔ (تکویر: ۱۱)

السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ نَكَانٌ وَغَدُهُ مَفْعُولًا : اُس دن آسمان پھٹ جائے گا، اُس کا وعدہ

پورا ہو کر رہے گا۔ (مزل: ۱۸)

یہ اور اس قسم کی دیگر تمام آیات ایک ہی حقیقت عظمیٰ کی ترجمانی کر رہی ہیں اور اس مسئلے کے

مختلف پہلوؤں کو اجاگر کر رہی ہیں کہ قیامت کے موقع پر آسمانی دنیا کی کیفیت کیا ہوگی۔ غرض جب زمین

و آسمان پوری طرح تباہ و برباد کر دئے جائیں گے تو پھر انہیں دوبارہ نئے سرے سے وجود میں لایا جائے

گا، جیسا کہ ارشاد باری ہے:

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ .

جس دن کہ یہ زمین بدل کر دوسری زمین لائی جائے گی اور اسی طرح آسمان بھی (بدل دئے جائیں

گے)۔ اور یہ سب کے سب اللہ کے روبرو حاضر ہو جائیں گے جو واحد اور زبردست ہستی ہے۔ (ابراہیم: ۲۸)

ایک وضاحت

اوپر مذکور تفصیلات کی رُو سے بدلائل معلوم ہو گیا کہ آسمان اول کا یہ مفہوم نہ لیا جائے تو پھر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بقیہ چھ آسمان کس کو قرار دیں؟ کیونکہ ایک تو دور بینوں سے نظر آنے والی کہکشاؤں کو ”آسمان“ قرار دینا ممکن نہیں ہے اور پھر ان پر ”سات“ کا اطلاق کرنا ایک امر محال ہے۔ بلکہ اس صورت میں تو آسمانوں کی تعداد اربوں تک پہنچ جائے گی، سات میں محدود نہ رہے گی۔ مزید یہ کہ اس صورت میں ”سقف محفوظ“ کا نظریہ بھی ٹھہل بن جائے گا۔ یعنی اس کا کوئی مفہوم نہ رہے گا۔

لہذا ان تمام اعتبارات سے ماننا پڑے گا کہ بقیہ چھ آسمان ہماری آنکھوں سے مستور ہیں۔ عمر وہ کس قسم کے ہیں؟ آیا ان میں بھی ہماری کائنات کے مطابق چاند، ستارے اور کہکشاؤں موجود ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ ان سب کا تفصیلی علم صرف خدائے علیم وخبیر ہی کو ہو سکتا ہے۔

اسلامی دور میں قانون تجاذب کا مفہوم

غرض تخریب کائنات کی یہ داستان بڑی عبرتناک ہے، جو جدید ترین نظریات واکتشافات کی روشنی میں ایک حقیقت نظر آ رہی ہے۔ قرآنی بیانات اور اُس کے دعووں کو سمجھنا موجودہ نظریات کی روشنی میں بہت آسان ہو گیا ہے، ورنہ دور قدیم میں ان کا مفہوم واضح نہیں تھا۔ چنانچہ مختلف ستاروں، سیاروں اور دیگر اجرام سماوی کے درمیان جو ”توازن“ قائم ہے، جس کی بنا پر وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں بلکہ ہر ایک اپنے مدار میں تیرتے ہوئے محور گردش ہے، اُس کی وجہ اُن کے درمیان پایا جانے والا ”عالمگیری قانون تجاذب“ ہے، یعنی یونیورسل لاء آف گراویشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اجرام سماوی ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ کیونکہ ہر مادی شے میں دوسری مادی شے کو کھینچنے کی قوت یا تجاذب ہوتا ہے۔ اور اس قوت کشش کی بنا پر ان سب کا باہمی توازن برقرار رہتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو تھامے ہوئے گردش کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اگر اُن کی یہ باہمی قوت جذب وکشش ختم

آسمان کیا ہے؟

کردی جائے تو وہ آپس میں ٹکرا کر ختم ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک گیند کو ڈوری میں باندھ کر اُسے گھماتے رہیں گے تو آپ کے ہاتھ کی ڈوری بندھی ہوئی رہے گی اور وہ گھومتا رہے گا۔ لیکن اگر ڈوری ٹوٹ جائے تو وہ آپ کے ہاتھ سے نکل بھاگے گا اور اپنے مقابل سے ٹکرا جائے گا۔

دور قدیم میں قانون تجاذب کا یہ مفہوم واضح نہیں تھا، مگر پھر بھی اسلامی نظریات میں ہو بہو یہی مفہوم پایا گیا ہے۔ چنانچہ تفسیر کبیر میں سورہ نکویر کی تفسیر میں کلبی سے منقول ہے کہ اُس دن (قیامت کے موقع پر) آسمان ستاروں کی برسات کرے گا اور ہر ستارہ سطح ارض سے ٹکرا جائے گا۔ نیز عطاء سے منقول ہے کہ یہ بات اس طرح ہے کہ ستارے زمین اور آسمان کے درمیان معلق قدیلیں ہیں جو نور کے سلسلوں (یا ڈوریوں) میں (بندھی ہوئی) ہیں۔ اور یہ ڈوریاں ملائکہ کے ہاتھوں میں ہیں۔ لیکن جب زمین اور آسمان کے تمام لوگ مرجائیں گے تو یہ ڈوریاں ملائکہ کے ہاتھوں سے چھوٹ جائیں گی۔

قال الكلبي: تمطر السماء يومئذ نجوما فلا يبقى نجم في السماء إلا وقع

على وجه الارض، قال عطاء: وذلك انها في قناديل معلقة بين السماء والارض

بسلامل من النور، وتلك السلاسل في ايدي الملائكة، فإذا مات من في السماء

والارض تساقطت تلك السلاسل من ايدي الملائكة. ۳۲

ان حقائق کے ملاحظہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی دور میں لوگ فلسفہ یونان کے مقلد جامد

نہیں تھے۔ بلکہ یہ اور اس قسم کے نظریات یا تو منقولی ہیں جو عہد رسالت سے متواتر چلے آ رہے تھے (

اور خاص کر حضرت ابن عباسؓ سے اس قسم کے بے شمار حقائق منقول ہیں) یا پھر عہد اسلامی میں مسلم

سائنس دانوں کی تحقیق و تدوین کا نتیجہ ہیں۔

دور صحابہ میں کہکشاں کا تصور

ہمارے ذخیرہ تفسیر پر ایک نظر ڈالنے سے اس قسم کے بہت سے حقائق سامنے آتے ہیں، جو

تحقیقات جدیدہ کے عین مطابق ہیں۔ ان حقائق کے ملاحظے سے حیرت ہوتی ہے کہ قدیم دور میں اہل

سورج کی موت اور قیامت

اسلام اور خاص کر صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین (رضوان اللہ علیہم اجمعین) جدید تحقیقات و اکتشافات سے بے خبر کائنات کے زموزو اسرار سے کس قدر آشنا تھے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اس علم و اطلاع کی بنیاد تجرباتی نہیں بلکہ رسول اکرم ﷺ سے سنی ہوئی باتوں کی بنا پر ہی تھی جو خاص خاص صحابہ سے منقول ہے۔ چنانچہ دور صحابہ میں آسمان اور کہکشاں کا صحیح تصور حضرت علیؑ سے سورۃ انفصاق کی تفسیر میں اس طرح منقول ہے کہ آسمان فجرہ یعنی کہکشاں سے پھٹے گا۔

وعن علي عليه السلام انها تنشق من المجره. ۳۳

یعنی آسمان کے پھٹنے کی ابتداء ہماری کہکشاں (مکلی وے یا ڈوڈھیائی راستے) سے ہوگی، جو زمین والوں کے لئے سب سے قریبی کہکشاں ہے اور اس میں ایک موٹے اندازے کے مطابق تقریباً ایک کھرب ستارے (ہمارے سورج جیسے) موجود ہیں۔

The Milky Way is our own galaxy, and the sun is only one star of the 100 billion stars in it. ۳۳

چنانچہ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ کہکشاں آسمان کا دروازہ ہے۔ (المجرده باب السماء) اور اس سے مراد وہ دو دھیائی راستہ ہے جو رات کے وقت آسمان میں ایک سفید لکیر کی شکل میں نظر آتا ہے۔ چنانچہ اس کی وضاحت خود حضرت ابن عباسؓ نے اس طرح کی ہے: (وهي البياض المعترض في السماء)۔ ۳۵

تخریب عالم کی ابتدا تخریب سماء سے کیوں؟

قرآن عظیم ایک انتہائی حکیمانہ کلام ہے جو علم و حکمت کے نکات سے بھر پور ہے۔ اس میں سائنٹفک نقطہ نظر سے غور کرنے والوں کے لئے قدم قدم پر حقائق و معارف کا ایک انبار نظر آتا ہے۔ کیونکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے جس کی نظر سے اس کائنات کی کوئی چیز اور کوئی حقیقت پوشیدہ نہیں ہے۔ بلکہ اُس نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ اس عالم رنگ و بو کی تخلیق کی ہے اور اس عالم طبعی کے تمام واقعات اُس کی منصوبہ بندی ہی کے تحت وقوع میں آ رہے ہیں۔ اسی بنا پر قرآنی آیات میں بھی

منطقی ترتیب ملحوظ رکھی گئی ہے۔ یعنی ہر دو آیات کے درمیان بہت گہرا عقلی ربط و تعلق ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ انفطار کی ابتدائی پانچ آیات ملاحظہ ہوں جو اس طرح ہیں:

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ. وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَشَرَتْ. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. عَلِمْتَ نَفْسٌ مَا قُلَّمَتْ وَأَخْرَتْ.

جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے۔ اور جب سمندر اٹل پڑیں گے۔ اور جب قبریں کھول دی جائیں گی۔ تب ہر شخص جان لے گا کہ اُس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ (انفطار: ۱-۵)

چنانچہ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ تخریب عالم کی ابتدا آسمان کو اُجاڑنے سے کیوں کی گئی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آسمان بمنزلہ چھت کے ہے اور زمین بمنزلہ عمارت کے ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص گھر کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے چھت کو توڑتا ہے۔ تو کہا گیا (إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ)۔ پھر آسمان کی جابھی سے ستاروں کا بکھراؤ لازم ہو جاتا ہے تو کہا گیا (وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَشَرَتْ)۔ پھر آسمان اور ستاروں کی تخریب سے زمین پر جو کچھ موجود ہے اُس کی تخریب بھی ضروری ہو جاتی ہے اس لئے فرمایا (وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ)۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے آخری فیصلے میں زمین کو بھی جو ایک عمارت کی طرح ہے تباہ کر دے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا (وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ)۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ زمین کی قلب ماہیت کر دی جائے گی۔ ۳۶

پھر اُس کے بعد دنیا کے تمام اگلے اور پچھلے انسانوں کو اپنی اپنی قبروں سے نکال باہر کر کے اُن کا محاسبہ کیا جائے گا اور ہر شخص کو اُس کے اچھے اور برے اعمال کی جزا و سزا دی جائے گی۔ نتیجہ یہ کہ کسی کو جنت ملے گی تو کسی کو دوزخ۔ اُس دن ہر شخص کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ اُس نے دنیا میں کیا کیا تھا اور روز جزا میں اُسے کیا ملا؟ جو کچھ اُس نے کیا تھا اُس کا بدلہ ملے گا۔

لَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہے وہ اُسے دیکھ لے گا۔ اور جس نے ذرہ بھر بھی برائی کی ہے وہ

بھی اُسے دیکھ لے گا۔

حرف آخر

حاصل بحث یہ کہ اسلام ایک عالمی و عقلی مذہب ہے جو علم و حکمت سے بھرپور ہے۔ اور اُس کی دعوت توہمات یا غیر عقلی عقائد و نظریات پر مبنی نہیں، بلکہ علمی اور سائنٹفک دلائل اور نظام کائنات کے حقائق پر مبنی ہے۔ چنانچہ جدید سے جدید تر اکتشافات سے اُس کے عقائد و تعلیمات کی حقیقت کھل کر سامنے آ رہی ہے، جن کے ملاحظے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام ایک سچا اور برحق دین ہے جو اسی ہستی کی جانب سے بھیجا ہوا ہے جس نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے۔ ورنہ قرآن اور کائنات کے حقائق میں اس قدر زبردست مطابقت ہرگز نہ پائی جاتی۔ لہذا یہ پوری نوع انسانی کے لئے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ خدا کے اس سچے مذہب کو اپنا کرا اپنی عاقبت درست کر لے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو جائے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَنِّي، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. (پونس: ۱۰۸)

کہہ دو کہ اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق بات آ چکی ہے۔ لہذا اب جو کوئی راہ راست پر آئے گا تو وہ اپنی ہی بھلائی کے لئے ہوگا۔ اور جو گمراہ ہوگا تو اُس کا وبال بھی اُسی پر ہوگا۔ اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔

مراجع و حواشی

(۱) فقہ اللغة و سر العربیة، ابو منصور ثعالبی، ص ۱۶ مطبوعہ مصر، ۱۹۵۳ء۔

(۲) لسان العرب، ابن منظور، ۱۳/۲۹۸، دار صادر بیروت۔

(۳) زاد المسیر فی علم التفسیر، ابن جوزی، ۸/۴۱، دمشق، ۱۹۶۷ء۔

(۴) دیکھئے انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا (خورد): ۲/۱۰، ۱۹۸۳ء۔

Oxford Encyclopedia, Vol.8, New York, 1993, P.15. (۵)

(۶) تہافتہ الفلاسفة، از امام غزالی، ص ۴۱، دار الشروق بیروت، ۱۹۹۰ء۔

(۷) یعنی ”سورج کی موت اور قیامت“۔

(۸) بخاری کتاب التوحید، ۸/۴۰۳، مطبوعہ استانبول، ۱۹۸۱ء۔

(۹) بخاری کتاب الصلوٰۃ، ۱/۹۱-۹۲، ایضاً۔

(۱۰) تفسیر کبیر: ۳۱/۱۱۳، دار الفکر۔

(۱۱) تفسیر ابن جریر: ۳۰/۸۱، دار المعرفۃ بیروت، ۱۴۰۰ء۔

Oxford Illustrated Encyclopedia, Vol.8, Oxford University Press, (۱۲)

Oxford 1993, P.55.

The World Book Encyclopedia, Vol.8, 1996, P.10. (۱۳)

New Frontiers in Artronomy, Freeman & Company, San (۱۴)

Francisco, 1975, P.224.

Ibid.(۱۵)

Ibid.(۱۶)

Ibid, P.222.(۱۷)

(۱۸) اس حدیث سے علامہ ابن تیمیہؒ نے اپنے فتاویٰ میں استدلال کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ اس

سورج کی موت اور قیامت

حدیث کو ابن حبان اور احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ: ۶/۵۵۶)۔

(۱۹) بخاری کتاب التوحید، ۸/۱۷۶۔

(۲۰) بخاری کتاب التفسیر: ۶/۳۳، مسلم کتاب صفات المنافقین: ۴/۲۱۲، دارالافتاء ریاض، ۱۴۰۰ھ۔

(۲۱) بخاری کتاب الرقاق: ۷/۱۹۳، مسلم: ۴/۳۱۳۸۔

(۲۲) بخاری و مسلم۔

(۲۳) دیکھئے فتاویٰ ابن تیمیہ: ۶/۵۶۲، مطبوعہ دارالافتاء، ریاض۔

(۲۴) تفسیر کبیر: ۴/۱۷۳۔

(۲۵) دیکھئے شرح چھمنی: ص ۲۲، مطبوعہ رحیمیہ دیوبند۔

(۲۶) دیکھئے تصریح (شرح تشریح الافلاک) ص ۶، رحیمیہ دیوبند۔

(۲۷) تفسیر بیضاوی: ۱/۲۷۶، دارالفکر بیروت۔

(۲۸) تفسیر روح المعانی: علامہ آلوسی، ۱/۲۱۷، داراحیاء التراث العربی بیروت۔

(۲۹) دیکھئے فتاویٰ ابن تیمیہ: ۶/۵۳۶۔

(۳۰) جامع ترمذی: کتاب تفسیر القرآن، ۵/۴۰۳، داراحیاء التراث العربی، بیروت۔ نیز ملاحظہ ہو

مسند احمد، ۲/۳۷۰، المکتب الاسلامی بیروت، ۱۳۹۸۔

(۳۱) کشاف اصطلاحات الفنون: ۱/۵۶۵، جدید ایڈیشن، بیروت۔

(۳۲) تفسیر کبیر: ۳۱/۶۸، مطبوعہ دارالفکر بیروت۔

(۳۳) تفسیر کبیر: ۳۱/۱۰۴۔

(۳۴) Oxford Encyclopedia, Vol.8, P.54.

(۳۵) التہایۃ فی غریب الحدیث: ۱/۲۲۹، لسان العرب: ۳/۱۲۹۔

(۳۶) تفسیر کبیر: ۳۱/۷۸۔

فرقانیہ اکیڈمی ٹرسٹ کی اہم مطبوعات

مولانا محمد شہاب الدین ندوی کے قلم سے

اردو مطبوعات:

۱- قرآن حکیم اور علم نباتات ← 170/-

۲- تخلیق آدم اور نظریہ ارتقاء

۳- قرآن مجید اور نیا نئے حیات ← 30/-

۴- اسلام اور عصر حاضر ← 45/-

۵- چاند کی تسخیر قرآن کی نظر میں

۶- قرآن، سائنس اور مسلمان ← 40/-

۷- عورت اور اسلام

۸- اسلام اور جدید سائنس

۹- جدید علم کلام ← 40/-

۱۰- قرآن اور نظام فطرت

۱۱- قرآن عظیم کا نیا معجزہ اور علماء کی ذمہ داریاں ← 28/-

۱۲- اسلام میں علم کا مقام و مرتبہ

۱۳- اسلام کا قانون نکاح

۱۴- اسلام کا قانون طلاق

۱۵- اسلامی شریعت علم اور عقل کی میزان میں

۱۶- تین طلاق کا ثبوت

۱۷- سپریم کورٹ کا فیصلہ

۱۸- تعدد ازواج پر ایک نظر

۱۹- ہمارے تعلیمی مسائل

۲۰- اسلام میں زکاۃ کا نظام

۲۱- قرآن کا پیغام

۲۲- زکاۃ کے مستحق کون ہیں؟ (دو حصے)

۲۳- کیا زکاۃ علماء کو دی جاسکتی ہے؟

۲۴- آسان عربی زبان (دو حصے)

۲۵- اسرار نبوت

۲۶- جہیز ایک غیر اسلامی تصور

۲۷- عالم ربوبیت میں توحید شہودی کے جلوے

۲۸- نکاح کتنا آسان کتنا مشکل؟

۲۹- بیج مراہجہ اور اسلامی بینک کاری

۳۰- جہیز خلاف شریعت کیوں؟

۳۱- زکاۃ اور مصالح عامہ

۳۲- زکاۃ کے اجتماعی نظام کی اہمیت

۳۳- حیات ثانی کے عقیدے پر کلوننگ کی شہادت

۳۴- سائنسی میدان میں مسلمانوں کا عروج و زوال

۳۵- رویت ہلال کے لئے فلکیاتی حساب معتبر ہے یا نہیں؟

۳۶- اکیسویں صدی کا جہاد: قرآن عظیم کے ذریعہ

۳۷- اسلام اور جدید عالمی نظام

۳۸- زکاۃ کے آٹھ مصارف: اور فی سبیل اللہ کی اہمیت

۳۹- سورج کی موت اور قیامت: قرآن، حدیث اور سائنس کی نظر میں

انگریزی مطبوعات

- 1- The Holy Qur'an and Biology
- 2- The Battle of Islamic Shariah in India
- 3- The Holy Qur'an and Natural World
- 4- Evolution or Creation?
- 5- Islam in Concept
- 6- Need to Institutionalise Zakat
- 7- Cloning Testifies Resurrection
- 8- Shariah House A Basic Need
- 9- Rise and Fall of Muslims in Science
- 10- Moon Sighting & Astronomical Calculations
- 11- Qur'an, Science and the Muslims

عربی مطبوعات

- ۱- بین علم آدم والعلم الحدیث
- ۲- الأدلة العلمية الحديثة علي المعاد الجسدي
- ۳- التجليات الربانية في عالم الطبيعة
- ۴- الاستنساخ الجيني يصدق المعاد الجسدي
- ۵- نهضة العالم الإسلامي في ظلال القرآن الكريم
- ۶- أهمية الجهاد لنهضة العالم الإسلامي
- ۷- التقدم في العلم والتكنولوجيا
- ۸- الحاجة الى انشاء دار الشريعة في الهند
- ۹- مشاهد الربوبية في دنيا النبات
- ۱۰- جلق آدم ونظرية التطور والارتقاء